


women in POLITICS



DESIGN: FAYSAL JISGHIR

ISSUE NO. 2, AUGUST - OCTOBER 2001.

Bargad Promotion of Liberal and Democratic Values.

Issue 2, August – October 2001.

Editor: Ejaz Ahmed

Assistant editor: Sarmad Raza nayak

Published by

Bargad

St# 1, Shalah Rehmat, Rahwali, Gujranwala, Pakistan.

Tel: (92-431) 298052,861051

E-mail: bargadpk@hotmail.com
barged@brain.com.pk

Contents

Editorial.....	2
WOMAN AND DEMOCRACY.....	4
<i>The role of our values in violence and discrimination against women.....</i>	<i>6</i>
Chat @ BARGAD.....	8
The students' opinion about the present situation.....	11
Honor of South Punjab.....	13
THE IMPERATIVES OF SOCIAL AND POLITICAL CHANGES.....	14
One-Day Seminar on Role of Youth in Promotion of Liberal and Democratic Values.....	17
Chotti Chotti Batain.....	19
Activities @ Bargad.....	21
LETTER TO EDITOR.....	22

Rs. 10 Per Copy Rs. 30 Annual Subscription.

Sponsored by: Henerich Boll-Foundation, South Asia Office, Lahore.

It is a matter of immense pleasure for us to note that our first magazine received tremendous applause from students and professors of universities. It was also received well by other segment of society, development sector in particular. Interestingly, it drew less criticism than we expected. We, therefore, think that we do need to improve.

The issue in your hand mostly deals with the question of women's participation and representation in politics. It is encouraging that the new devolution plan introduced by the present regime substantially increased the quota of seats for women at local level and committed to remain persistent to this policy at provincial and national level in the future elections. Did this increase in percentage of representation bring any tangible change in the plight of women? To find an answer to this question the representatives of Bargad have conducted cross-sectional surveys and in-depth interviews with newly elected women representatives and women voters.

Our findings suggest that representation is one facet of the role of women in politics. The other more significant part is participation in the political process. Without participation representation becomes meaningless. It seems pretty hard to achieve this objective without political education and democracy training. Nevertheless, the fact remains unchallenged that this increase in the percentage in representation of women in local bodies does have its impact on the political culture, no matter how little or insignificant it may be. Today, women feel tempted and inclined towards taking part in

political debates that will

Certainly raise their political consciousness and understanding.

Now there is a need to call on political parties and local governments to dismantle barriers for greater women's participation, crafting a "menu of options" with which to achieve this end. We are of the view that a deliberate action is needed to correct imbalances in electoral and political systems that have resulted in skewed participation between men and women and traditionally easier access by men to politics. Without the active participation of women at all levels of decision-making, the goals of equality, development and peace cannot be achieved.

But having more women in local governments, the level at which many find it easier to enter into politics in contrast to the national level, is not just about empowering or benefiting women. It would allow society to benefit from women's experience and knowledge and in the end promote good governance as well because a gender-fair system is in the end more democratic, more representative of women, who make up half of the world's population, and more inclusive of their contributions.

Indeed, equal access by men and women in politics will achieve a more harmonious humanity, where women and men equally share rights and responsibilities, starting with the family. Many women struggle against views that they should not be involved in politics or leadership positions, and those who do get into it have to balance domestic responsibilities and

often have a hard time with financial resources needed to seek public office. It is pertinent to note that work to change traditional politics and perceptions of voters and constituencies lies at the grassroots level.

The strategies that can be used to increase participation and representation of women in politics include getting governments to set "explicit, time-bound targets for gender" and the setting of quotas for women to level a playing field that has traditionally been more accessible to men, because of social, cultural and economic reasons.

Quotas are already in use in South Asian countries such as India, Nepal, Bangladesh and Pakistan, and experts note these have instantly changed the gender composition of local bodies. Women local leaders add that change should start from the level of political parties, to recruit more women members and candidates in the first place, with the objective of achieving a 50-50 goal (of equal representation between men and women). Moreover, women should be "recruited, appointed and promoted in the local government service."

But beyond the question of numbers, women also seek deeper change and the quality of a gender-fair political culture. For instance, the seats reserved for women should not be viewed as inferior to the openly elected seats. The same power should be accorded to all representatives, whether holding reserved or general seats.

It is also imperative to introduce electoral reforms that include a cap on election spending - studies show that high costs deter women from running - and the use of

proportional representation systems. Among these proportional representation systems are party-list schemes, which experts say allow women's groups more of an avenue to get into public office. Gender-fair changes should reach the level of governance, including a review of laws to ensure women's entry into local governments and the incorporation of a gender perspective in policies and budgets.

Women opinion makers also advocate the creation of networks in the country so women local leaders can learn from each other about ways to raise financial support for and training of women candidates, and efforts to correct biases in media.

From 1995 to 2000, the percentage of women members of legislatures around the world rose from 10 percent to 13 percent. At this rate, it will take 75 years to reach the 50:50 ratios between men and women. (Sheila Vilalluz, the Manila-based Center for Legislative Development.)

Indeed, it will take time to make women, men and voters aware of the democratic value of a gender-fair system. "It's not easy to reach equality in politics, because men love politics."

Nasima Amjad Bukhari — an elected councilor from the Satellite Town of Gujranwala:



I was not at all ready for contesting the election because I thought that this was not the business of a gentle lady. In our country, most of the politicians are bad, kidnappers and quarrelsome people. I got ready on the persuasion of my son and now I feel that I was wrong. The women must join the politics. They can solve the problems of the women only by taking part in the practical politics. All the women who have taken to politics have a little know-how of the politics. They ardently need to be trained.

All the votes that I have got owe to the public relating of my husband and son. Our women cast their votes on behalf of the members of the family. The women are much pleased because of the lady councilors and express it openly that, now, they would also be listened to. The Women can pinpoint now their problems easily. Neither this society and system nor Man accords full rights to the women. If the men regard the women equal, they may not torture them. Not to speak of considering them equal, they do not even take them (The women) as humans.

Here, the democratic behavior is absolutely absent. Nor do we adopt the progressive values, which we ardently need. In our society, the parents advise their daughters while they are being married, "oh dear, now only your coffin should come out of your in-laws' house." Hence, the daughter goes on waiting for the deathbed but never ever says (no).

Kishwar: (Badhoki Gosainan) How can the women take part in the politics when their parents don't bother about affording them education on the plea that they must have to "the Next" (in-laws) house. As the sons will feed them by their earning so they should be fed well. That's why, in our society, the girls are underfed and the boys are overfed. The reason they state is that sooner the girls become marriageable sooner they will have to be married. This is also a reason why the man looks younger than their age-fellow females when both the persons are standing together. This system must go and this is

possible only if the women are educated, made conscious rather I assert that the government should make the Matriculation compulsory for marriage of the girls. Moreover, the love-marriage is permitted in the Islam, so we have no right to snatch this right, and if we are Muslims we must abide by this contrarily, we have made the law that curses the women for their love-marriage but does not frown upon in regard of men. What the hell they should enjoy the right of vote when they vote on behalf of their husbands. Whichever the government is formed, there is no participation of women in it. Now, look, the Local Body Government or Devolution Plan is discussed but I don't know much about it, though I belong to a political family so have a know-how of the politics yet how can a common woman have the knowledge of it and it is expeditious to launch training programs on it.

Not only must the women enter the politics but also they must work. The rupee has devalued to an alarming extent. Here, one earning hand feeds the ten persons. If the women work, the condition of the house will improve and so will their lives.

Robina Ijaz, Lady Councilor, Cantonment Board who has worked for two and half a year says, " I have joined the politics with the consent of my house-fellows as well as my own decision because many such incidents take place in our village that the men beat their wives violently to the extent that their bodies get stained. These women work in the area of cantonment all the day and at homes, get beaten for nothing in the evening in the hands of the husbands. Besides this, most of the husbands demand for money and failing to come up to it they have to undergo torture. The husbands ask for money more for intoxication. Such women can't even know about the right for vote. They just vote following the directions of their husbands of brothers bandit often happens that women stamp all the signs owing to their unawareness that makes the vote bogus while the use of vote should always be entertained by much brooding and the call of conscience. Education and training are must for the women, as the women contesting the election know least about the politics or Local Bodies Program. A woman can't cast her vote independently whether she is educated or illiterate and if she does so a quarrel will ensue at home. If we want to form the groups of the women or we initiate the training of them, we will face

much difficulty because there will be much resistance from the men.

Moreover, we are unable to gather the women folk without the consent of the men, so it is so essential to train the men as well in the rural area. We must set-up such institutions or offices as there the women furnish their grievances because it so happens in the villages that during the quarrels husbands even chop their wives. Accepted that a husband is a semi-god of a wife but, at the same time, she should also be accorded her full rights. The women should have the right for the marriage of her liking as Allah as well as the Islam grants this right. A woman should go along with her husband on equal footings right from the very first day of their marriage because if she is guiding him right from the beginning, she will, subsequently, face no difficulty. Though side by side with this situation, I have observed that the women are also at wrong in domestic frays as they retort to their husbands and are, consequently, beaten.

Shah Bano: (These days, she is running an art academy at home) I had made a firm decision to take part in the recent elections but my mother opposed me on the basis that our elected councilors are criminal and she said that she did not want her to sit beside them or have a contact with them. God has created woman only one degree lower than man but he has relegated her to many degrees, which is an injustice with the women. In our society, the meal is served to the sons first and the girls are brain washed in the way that they consider themselves lower and that's why they suffer a lot at their parents' home as well as in-laws' but now the circumstances are changing, it is high time we make them more aware. The women must join the politics but, at the same time, they should work too. The women have many problems with reference to work in Gujranwala while in bigger cities they have fewer comparing the educational institutions, Shah Bano said, "The atmosphere of the National College of Arts is such that not only you get education there but also learn the etiquette of the whole life. An opportunity is afforded to you there to work with full mental freedom. The progressive values are popularized and thus are owing to this that whatever I have done in the span of four years I could not have done it throughout my life.

A relationship is found between the teacher and the student and all these things you can't find anywhere else and this is the reason why the outgoing students of this college always remain successful persons in their

professional as well as personal life. I spent some months at the Fine Arts Department of Punjab University but there was an atmosphere of suffocation as if you ever tallied even to your class-fellows the Jamatis (belonging to the Jamiat) interfered. Why it was so I don't know. The women should come to every walk of life and this is also the need of the hour as well as the society.

Ishrat Rasheed: (is elected unopposed from Peoples Colony Gujranwal, earlier she used to work at the houses of the people) She says, "This was ordained by Allah that I became councilor or with the affection and kindness of Rana Sahib (sir). The women must join this field but the wealthy ladies have no problem, though they claim to have many. Actually, it is we the poor who have problems, we don't have houses to live in, money to pay fees for educating our children, money to marry our girls." When she was asked about the solution to these problems, she said, "we should ban the T.V., Dish and Cable in our houses and now, above all, the computer has also emerged as an object of obscenity on which the children watch the nude pictures. An abolition of these things will solve our problems". On the question that how these things are related to our problems she said, "The religion rejects these things but we don't desist from them and then these problems are imposed on us as a divine scourge." On the point that these things have become essential in this age and we can't do without them she kept quiet and after a considerable pause she assisted that these things bear more disadvantage than advantage.

She did not comment on democracy and the present system.

Shahnaz Bibi: I suddenly came to know that my brother-in-law (younger brother of the husband) has got my name filed. I hesitated and said that I did not know even how to deliver a speech because I have never spoken at public places and not ever come out of home so how can I do politics. The rest of the time she kept silent and even on being asked again and again she did not break the ice.

Naeema Iqbal: "I was also made to contest the election by my home-fellows but, in my opinion, the women must contest the election and enter this field. The women are discriminated rather. I myself treat my son better.



The role of our values in violence and discrimination against women.

When did I feel in my life would that I had been a boy!

Iram Iqbal: When I wanted to opt pre-engineering after doing my matriculation and my father told me that this subject was not to be studied by the girls, so I had to study Medical.

Aqsa: I have these words to listen to daily "Had you been a boy, we would have no worry" these words trouble me greatly (saying this Aqsa's voice became husky)

Saira Rashid: What should I tell you? The right of women is usurped at every home.

Saira Dar: I've never come to realize (when it was repeated and asked if she could do everything her brother could she replied)

No, I can't drive where as I have great penchant for it.

Sidra Shabnam: I have felt it for many times. I'm often taunted, "Had you been not there, I would have objected to the co-education". My mother needles me by uttering



such sentences.

Sarwat Habib: When I happen to be going some where in veil, the passing guys pass such remarks that I feel ashamed.

Sumbal: All were cherishing the birth of a baby son. My auntie (the sister of father) had declared that if there had been a baby son, she would adopt him. All the people pull a long face on my birth; they all were disappointed, I'm made to realize even today that I've arrived needlessly__ nobody needs me. It is said, "would that you had been a boy." (Saying this her voice got

husky.)

Then a discussion ensued that why it is so that on the birth of girls sweets are not distributed etc. etc. it is the difference of the age, in the past it did happen but, now, it is not so as the circumstances have changed.

Iram Iqbal: The mothers always advise daughter but not their sons that they should not look at the girls outside.

Saiqa Rashid: In our locality, a lady has four daughters and they all members of the family wish would that their daughter should become a boy. They have got amulets and worn. Charms for many times for this purpose. In this manner what impact will be on the mind of daughter.

Sarwat Habib: All this is so because they see advantage in it.

Sidra Shbnam: Four sons of my "Taya" (elder brother of the father, paternal uncle) have been married out of our caste but one of their daughters wants to marry out of caste but she is not permitted and when I argued and put forward arguments, they simply replied that they are



males.

Muqqadas Iqbal: I never thought / reflected this way but, now, after your question when I began to reflect, it came to my mind that my parents didn't take me to Saudi Arabia with them and left me behind with my maternal grandma. Had I been a boy, they would not have done so.

Aisha Habib: I very much like to study I.T. but I am not being allowed to go outside the city.

Saira Rashid (student of class 7) I have to do all the household chores. The girls do household work after

returning from School but the boys go out for playing. Why the girls are detained at home? Do the domestic chores, wash the utensils, clean the house, do the home work, read the tuition and the boys have to do nothing.

Sidra Shabnam: there is an auntie and her two husbands have died but now she can't marry thrice because the people concoct the stories whereas her children are too young and she needs to be married. This is our callous attitude towards the widows.

Tasfia Anwars: I know a chap whose two wives had died and he had nine children but still he married for a third time. If a woman becomes widow even at the age of twenty and has a baby son, all will say to her that she does not need to be married again in the presence of a son.

In group discussion when Islam was cited again and again that Islam has determined the limits for women, there was dead silence among the group and there came a delicate turn when nobody liked to talk how many girls know about the Islam or how many only one of the girls told that she had read the Quran with translation. All the other girls were imposing restrictions on them selves on the bases of hear say. And the only lady read a verbatim translation from a "Mdrasa". (Religious school) The facilitator told that different people have interpreted the "Quran" differently and the "Sunni-Shia" quarrel is also based on the difference of the interpretation. Besides this, no female has ever rendered the "Quran" and all the sects have agreed upon this that the translator's liking and disliking must intrude while translating. Therefore, imposed restriction by the religion. Then there was also discussion on the "Nikah Nama" (Marriage certificate) for no unmarried girl had ever read the same.

A participant objected that since the Islam is perfect, there couldn't be any tampering in it. Then the facilitator briefly touched upon the concept of "Mutah" (A contractual wedding or an ad-hoc marriage) and told what "Mutah" is and it was decided lately that it should be abolished. The "Ijtihad" (interpretation of Islamic laws) in one of the important aspects of the Islam according to which a decision can be made while coming up to the demands of the hour.

After this, when the role of Pakistan in the present America-Afghan war was discussed the participants passionately condemned the state decision and the like statements came to fore:

- A single-day life of the lion is better than that of a jackal of hundred years.
- The holy war is incumbent upon the Muslims.
- The government has shown cowardice.
- Pakistan can protect Osama.
- It's a conspiracy of the Jews.
- The Jews want the Muslims and the Christians to fight against each other.

Then a hot discussion ensued. Only Iram was of the view that the government has done right what so ever and all other people were opposing it and some were reticent onlookers.

At last, the facilitator concluding the discussion said that Islam brought the message of peace not of war. The Jihad (Holy War) comes later. Let us first take a view of the situation of the country that how many children are deprived of education, how many people do not enjoy the facility of treatment and die of the disease in much trouble, there are how many children who have to work in very early age and are deprived of the basic facilities of life. Need we not work on these problems and postpone the Jihad (the Holy war) for some other time? The ages you people cite from that they waged the holy war are the same when Hzarat Umar used to say that it would be negligence on his part if a dog dies hungry at the bank of the river Euphrates. Only if we ever look at this example before considering their point of Jihad.

Besides, those people who are in favour of the holy war in Afghanistan must look at the Afghani children who beg on the roads, scavenge and remain bare-footed even in the scorching moons of the summers. The Afghani women in G-9 sector Islamabad and Karachi Company who are bound to sell their bodies, haven't any other job to do and their own fathers and brothers make them do so in order to fill their bellies. "Hence, we should make the decision of the holy war after considering all these things that what we are inheriting to bare feet or the buildings of schools and the toys to play with.

Mohammad Mushtaq, Director, Insan Foundation, Lahore.

He received the degree of Masters in Philosophy from Govt. College, Lahore. He has been working in his present position as director of Insan Foundation for last ten years. A representative of BARGAD spoke with him in detail about the prevalent values of our society, need to change them, the importance of the promotion of liberal & democratic values and the role of women in any of these scenarios.

BARGAD: In the local bodies elections women have 33% representation. Many have participated, but it is widely believed that without political education and democracy training they will be under to deliver.

M. Mushtaq: I think women are playing a positive role. Men need to do something. They need to be a little wise and honorable. This is a process of change and women will eventually change their status with the passage of time

BARGAD: NGOs are conducting training programs for elected women councilors. Do you think these trainings would be beneficial?

M. Mushtaq: NGO,S should first do their own training. NGOs are not capable to train women. The complete educational system needs to be changed. Progressive system of education should replace the orthodox.

BARGAD: But there is intense opposition to liberal and progressive values in this country.

M. Mushtaq: Look, State is very powerful it can do anything. If state brings electronic Media in use for the development and education of women, that day will not be far away when women can attain enlightenment. However, nothing can be said in affirmative about the state whether it assumes the above-mentioned role or not, because an empowered woman is neither acceptable to men nor state.

BARGAD: Do you think a mere change in educational

System can bring about the overall change?

M. Mushtaq: No.. the whole social, political, and economic system needs to be corrected.

BARGAD: Will men accept the perceived change?

M. Mushtaq:They will have to as women are getting along with the present system.

BARGAD: Do we have democratic attitude in our homes and institutions?

M. Mushtaq: To some extent. There are some democratic values. Our state, media, and educational system do not encourage this attitude, but the people long for it.

BARGAD: How can we promote democratic attitude?

M. Mushtaq: The state has the most significant role in their regard. Every state has it own interests. We have feudal like attitude because feudal support the state and in return state safeguards their interests. The state can promote democratic attitude and feudalism will vanish. When the feudal power dies down, the complete political and economic structure will change. If the democratic system grows, women will be liberated.

BARGAD: If the state does not want this change, what can people do about it?

M. Mushtaq: Then, it will be a long process, depending on the struggle made by people. Secondly, our people are over-conducted. They are thankful to God, whatever He has given. The element of change is rare -and slow in such societies.

BARGAD: What can people do to press upon the Govt. to initiate the process of change?

M. Mushtaq: It's not Govt. It's state that needs to be pressurized. Govt. is a weak thing. Sometimes, it is in the hands of Nawaz Shirk and sometimes Benazir is in chair. The real power lies in the hand of those people

who bring them and oust them. The machinery of state is the real power.

BARGAD: How would you comment upon our prevalent values in our society?

M. Mushtaq: The biggest values in our society are hypocrisy. We have to carve way out from this value. It is not possible to abandon the old norms at once and adopt the new ones, this change will occur slowly.

BARGAD: If we adopt liberal & democratic values or orthodox values, what good impact can you foresee?

M. Mushtaq: When we abandon hypocrisy then we have to accept the reality of the things. Reality is bitter but we have to face it. We have to see our history. It may be hard but is indispensable. This is only possible through a scientific approach. The hair of Pandat (Hindu priest) in India and beard of Moulvi in Pakistan have done much harm. If both these things are removed, peace can prevail in society.

BARGAD: How would you define liberal values?

M. Mushtaq: I should be free unless the boundary of the nose of others starts and vice versa and this boundary should not expand to an exasperating extent. Moreover, we have no other way than to adopt the liberal values.

BARGAD: What should be done to popularize the progressive values?

M. Mushtaq: We should publish the calendars bearing the pictures of guitar rather than the gun and the sword and the young should hold guitar instead of the gun. Once the guitar gets hold, the pen must also, gradually, get hold and the tongues will speak the language of love not gush out the poison and the values will, automatically, be changed and the attitudes will get democratic.

BARGAD: Our society is losing the patience, what measures we will adopt to counter it.

M. Mushtaq: No, not at all, we possess much fortitude. Raise the amount of bills to your discretion and we will bear it. We pocket our affront, we don't object even if

our sister, daughter is insulted. How much more you should expect of us?

BARGAD: Yes, accepted, but still, in the society the Christians are being slaughtered on petty matters on the pretext of blasphemy of Prophet hood.

M. Mushtaq: There are many shapes of business in the world. There is the business of Pepsi. They raise the slogan Dil Dil Pakistan, Pepsi Pepsi Pakistan (Pakistan is our heart, and Pepsi is Pakistan) and sell the Pepsi and earn money. Likewise, there is the business of religion. The Hindu is undertaking this business in Hindustan, in some countries, the Christen is doing the same and in our country, the Muslim is bargaining the religion. They earn the profit out of it, this is their livelihood thus they are bound to present the Islam as a violent religion and kill whosoever comes their way. This is their means of earning in this age of dearness.

BARGAD: Why do our people keep quiet on such things?

M. Mushtaq: Those who keep quiet are punished in the long run. When a Moulvi (Muslim priest) indulges in vandalism in the next street and he is not checked, the next target can be your street too. And the dead do not rise none raises from the cemetery. Only their people speak where they dare rise. Here, in fifty years, the thuds of the "Boots" have horrified the people; therefore, nobody is ready to rise.

BARGAD: But what should be done to move the people?

M. Mushtaq: Just ask the young to play the guitar, love, play the music, and smell the scent of the flowers. When love spreads, democracy as well as the democratic attitude will automatically, emerge. If the young take the guitar in their hands, the Moulvi (Muslim priest) himself will die.

Joseph Masih is working as a manager at O'Spring in Murree.

O'Spring is the possession of the Church. There is a conference room in it where the different N.G.O's hold their training programs. Besides this, the Christian missionaries who are scattered all over Pakistan gather together here in the summer. While talking about present democratic changes in country Joseph says, "It's a good change that the women are being accorded 33% representation in the local bodies.

It's a promising step in a society where neither the women are given their right nor her evidence is recognized. Still many people are not allowing their women to enter the politics as they are joining Medical line, Engineering or Civil Service. The system which the government is introducing is already in vogue in France. Though it is, a first step towards democratic and progressive values yet the Christians are discriminated to some extent in this setup as they are allotted only one seat. Actually, there should have been one male and one female seat but there is only one minority seat. Despite this, it's a good effort to introduce a new system but, at the same time, it seems as if the government itself does not know what it has to do. An example of this sort is that only one day before the election, a circular was issued that the minority would also cast their votes for the "Nazim" and "Naib Nazim" and the disadvantage of this was that this information could not be conveyed to a great number of people and they could not cast their votes. Had this circular been issued earlier, the contestants of the election would have gone to the Christians for votes and verily in return, the Christians would have presented their demands or conditions to them. It is an ardent need to popularize the democratic and progressive values in the country. We, the Christians, are also inhabitants of this country and we have also as much right over this country as the majority has. But, in practice it is not so. We are made to realize time and again that we are a minority and the examples of this can be had on social level and in giving services too. I gave up my job only because I was discriminated. An inhabitant belonging to the minority has to make four times more effort to reach the status, which an inhabitant, belonging to the majority enjoys. This is a difference in the matter of Muslim Christian Marriages. If the girl is Christian and the boy is Muslim, there will be no problem as the law also stands by them. But, if the boy is Christian and the girl is Muslim, the boy is not only slain but his whole family has to face the hardships also. A Christian boy, Zeeshan, and a Muslim girl want to be married and despite the fact that the boy should embrace Islam, the persons from the family of the girl threaten him and he, considering the safety his family is not marrying her.

Besides this, the personal grudges as well as revenges are undertaken in the name of blasphemy. If there is a land quarrel with a Christian; a case of blasphemy is filed against him.

In my opinion, we need to impart education's consciousness and awareness to our people that the minorities are the part of our country. We all should be courageous enough to put up with one another pleasantly. No inhabitant should realize which religion he belongs to for only this is democratic and progressive attitude".

The students' opinion about the present situation

Shamaila Bukhari: In the present situation we had no other option than to since with America, otherwise we would have met the same fate as the Afghans have. The rallies, the meetings or the processions are not the solution to the entanglement. They are of no avail. Instead, we should sit together and find its solution. Though we are being bound to side with America rationally, yet emotionally we are with Afghanistan.

Saira Ameen: America is committing terrorism, she has no proof that there is Osama's hand behind the blasts but she is abusing the power. Our hearts, emotional attachment and prayers are with the "Taliban" (the Students)

Hifsa Bukhari: Although my heart is with the Afghans, yet the government has its own limitations.

(On the question that what you people know about the "Taliban" whereas they are against the female education as well as the co-education; while the atmosphere of the Fine Arts department is not only different from the rest of the university but also favors to spread the liberal values)

saira Ameen: we know about the "Taliban" only what our media tell us. The atmosphere of our department is very pleasant, we tame our class-fellows on human level not on gender level. Besides, it is the requirement of our work that we should work together. Working together with the boys also enhances confidence. It is the contrivance of only the bad brains that there is something wrong with the co-education. The fault, casually, lies in the brains of humans.

Samar Tariq:(IER) I don't listen to the news even, that's why I know nothing about the conditions. O.k., but there should not be war. Pakistan is doing wrong as well as right. America is strong enough to make us side with her but, at the same time, the Afghans are also faultless.

Salma Mehmud (M. Phil. Islamic Studies Deptt.)

Pakistan's stand is unjust as the Afghans are being coerced. Every aim calls for sacrifice. At this time Pakistan should have been at the back of the Afghans but we are bedeviling them. Admitted that we can't encounter America but we can defeat America only if we have the force of faith. America is perpetrating terrorism flagrantly.

Rabia Butt: (Stat.Deptt.) The Afghans have always harmed us. They have taken the drugs and arms to our country. But, now, if America is waging crusade, we should not stand by her. But it seems as if the situation is not clear even to our rulers. Pakistan is supporting America as well as stopping her.

Nausheen Mehmud: We are so entangled in our problems that nobody is interested in the situation. As a nation, we people have become so selfish that we do not come out of our "Selves" far less to think about the country. These meetings or rallies will bring forth nothing. There needs to be launched a regular movement, to impart awareness to the people and to gather them on a single platform. America is groping in the darkness. She herself even does not know about the ends of the war. The male and female students of the University can do lot but the politicians as well as the "Jamiat" always exploit them. Now the "Jamiat" has a bit suffered an eclipse but still their formulated policies are working because there isn't any other, entity to put forward a substitute policy. It is the need of the hour to have a platform where the students may initiate educational and healthy activities.

F.K. (psychology Deptt. G.C. Lahore): I have no interest at all in politics. We are so much under the burden of studies as we are unable to do anything else.

(Please, don't mention my name because our teachers won't like it and I can't offend them). A student can do noting in Pakistan. We have neither

economic nor social security, so how we can give any opinion. It is Pakistan that is responsible for whatever is happening. What is wrong and what is right will be known after the result will come out.....

Why don't those people work for their own people who want to work for Afghanistan.....

The whole Islamic world is afraid of America. None talks against them while they are exceeding the limits. What will be the advantage of the meetings, processions and rallies? There is no such atmosphere in our college. We are different from the people of other institutions. We think first and then try to convince through discussion. We do not come on the roads. As far as a platform is concerned that must be there for the students. Here, education is meant only for earning money. That's why, the girl, education is not opposed because they can earn money.

The union should not be reinstated, for there is only vandalism in it. I want to work but cannot because, here, whosoever talks about change actually revolts against the traditions. To live for him becomes a nuisance. If it remains restricted to my own self/person, I shall bear it but, here, the whole family has to suffer. People taunt their wives at the cost of their sisters. I can't be the cause of disgrace of my sister, brothers or the family. It is due to this that I don't participate in such activities. At some time, a daring personality must be destined to emerge in order to change the system.

Ali Imran: On the one hand, Pakistan is siding with America, but on the other, she is supporting the Afghans. The students of the G.C. are not involved in holding meetings, processions and vandalism. The atmosphere of G.C. is different from that of other colleges. Here, no party wields. There is a congenial atmosphere in our college.

Power like the "Jamiat", rather there are curricular as well as extra-curricular traditions of the college. In the University every matter begins from the "Jammat" and ends on it. There must be a union but only for

purposeful activities.

Zahida Tasneem: This is not eliminating the terrorism rather a crusade in which we should stand by the Afghans. To side with America is tantamount to go against the Islam. These rallies are of no use and so do not happen in our college. There is much discipline here. A moderate liberty is here; neither absolute freedom nor unjust restrictions. Excessive restrictions deprive humans, as it is so in the Punjab University. That's why scandals are not harbored in our college.

Nausheen Razaqat: Pakistan should support the Afghans for they are fighting for the Islam. If the Afghan Government has ever opposed Pakistan in the past, it does not mean that the Afghan public is also against us just in the same way that our government is against Afghanistan but our masses are with them.

Raheela Inayat: It is actually Israel that is committing terrorism in Palestine and India in Kashmir but no body frowns upon them. And if the helpless and innocent Afghans are bombed, Pakistan should not side with America.

Gazal Qamar: America has no evidence that Osama has done all this. America is waging war for her selfish ends. Our teachers take much care of us and if a girl or a boy gets free, they forbid us and say that they will account for our conduct on the Day of Judgment.

Bushra Asghar: I too think so.

Honor of South Punjab

NGOs claim they will bring social change in this country. They are working for the rights of the deprived section of the society and improving the plight of women is their top priority.

A Lahore based NGO organized an annual program of capacity building for organizations from different places of Punjab. Four workshops were held under this program and a collective commitment was made by all participants that they would press upon the Govt. to support us in this process of change.

A girl participant from southern Punjab took part in these workshops along with a male participant from the same organization in the last workshop the girl told she had got marled in the recent past and her husband had seen her off at the bus station when she was traveling to Murree with her male colleague. It was third day during workshop when she told that her husband was coming to see her.

All participants were happy to hear that news. Organizers of the workshop got them a congratulations card and allowed her to spend some time with her husband from the very busy schedule of the workshop.

They stayed together in one room that night. Except a few, all male participants expressed their displeasure and ridiculed her male colleague. Next day, the male colleague went to her and asked her to **make an announcement** that she left her parent's home to **live with her husband** because people were talking about it. He also said to her that she brought dishonor to **Southern Punjab**. The girl talked to her husband who told **her to leave such job and people**. The poor woman **began to cry**.

When it came to the notice of the organizers, they forced her male colleague to apologies from her. He insisted that he had done nothing wrong. At last due to tremendous pressure from organizers he had to apologies, which was merrily a formality. The representative of Bargad was present on the occasion. She spoke with all participants to elicit their opinion on the matter.

Norma Naseem, Sahi Sialkot, said, "This reflects mental sickness."

The male champions of social change openly supported the stance of her male colleague and labeled the action of girl as wrong. The representative of Bargad saw resentment on the faces of male participants who said it was a misunderstanding and there was no need to discuss it.

A participant, Perviz William who remained silent all the while, later came to the representative of Bargad and felt sorry for his attitude. He said that he could not condemn the attitude of his male colleagues in their presence. He considered it as his moral weakness but he was confident that he was undergoing the process of constructive change and hoped to abandon the rotten norms.

Other men opined that the girl should have kept quite and should have ended the matter without talking to her husband.

One participant was not willing to talk about the issue and another participant, who is Director of an organization and wants to work for political awareness in future, expressed his utmost resentment and displeasure over the matter.

While talking about the incidence the husband of the girl have very good comments. He said that he himself had sent his wife with her male colleague and if that male **colleague** possessed her so madly what would he do to **his own wife**.

This incident may seem to be insignificant to a large number of our people, but it certainly raises many critical questions for NGOs. Or these advocates of change have any clarity what change they are striving to bring about? Are they sure they do not have elusions? Or are they deceiving others while advocating a cause they themselves do not believe in?

Men condemn their female colleague as their property and if some woman exercises her right of freedom or choice, it can bring dishonor to them. At home, a woman is the symbol of the honor of father brothers, and husband and at office she becomes a symbol of honor for male workers. Do men have no honor of their own?

The knowledge, which is imparted in our schools and course-books, provides the general information i.e. what is the population of the country? Which minerals are found? Or how long are its four boundaries? The true knowledge that is our requirement does not come to us i.e. what is the purpose of having this country? How many people are there who possess education, facility of health and employment?

How many children are provided with school: what are the reasons of the bad conditions of the country?

There are 37.5 million people who know how to read and write including those people also who can recite only the Quran, Nine million children undertake bounded-labor that is detrimental to their mental growth, 67% i.e., 82.5 million people do not get clean drinking-water. 113 out of 1000 babies die even before their birth and 109 babies die just after they are born. Go to Balochistan and you will find no road, school; or hospital for miles. Not to speak of basic facilities, the farmer does not have even food i.e., 40% or 52.5 million people do not enjoy basic food. Do our course-books or schools, colleges impart this knowledge to us?

A farmer works on land but he is no more owner of this land. Our farmer was familiar with the land. He did know when to water the fields, to sow the seed and to reap the crop. Our land used to provide half of the worked with the grain but, now, we get the wheat from America and China. 93% farmers are the owners of less than five acres of land.

We, who have once ruled over the world, are crushed under the burden of loan. What's its reason? Some or the other wrong decisions must have been made. Whether they are economic decisions or political ones we need to ponder over it and if we do not do so today, nothing will happen tomorrow. The Green Revolution in 1963, is before us as an

example, which has harmed us only. Some people arrived and advised us to use certain seed in order to get 120 mounds of the wheat instead of 50 mounds and by using the same seed it did happen so, but then after some time, the insects invaded the land and the same country prescribed to use so and so insecticides and thus we got the same insecticides from that country also. Again when the seed got weakened, the prescription came to give water profusely, and when the fields were watered excessively, water used to remain present in the fields and in this way, the soil fell victim to water logging and salinity. The production lessened as well as the soil became barren. After this, the Urea was introduced as a solution that poisoned the food. We as well as our cattle fell prey to many new diseases due to having the poisoned food.

In 1985, the soil that fielded 120 mounds wheat was reduced to 30 mounds per acre and, now, we are getting 17 mounds of wheat. The agriculture came to nothing within 30 years and we have become dependant. The farmer, who was the owner, has become debtor and, now, he spends one thousand rupees and, in return, gets only seven hundred rupees.



The second policy is this that in any plan meant for the farmer the student, the laborer or the common citizen, these were never ever made to participate in last 53 years and the policy-makers were those who did never abide in the country far less their facing the problems. They think that they can plan far better as they are educated in the Oxford and Cambridge, so, there is no need to make the illiterate villagers participate in the policy making. Therefore, there is disadvantage as neither any plan has reached the completion nor there is any durability in it because there is not any plan formulated regarding the problems as well as the requirements of the people.

A project was launched in Tharparkar and the latrines were made throughout the area without considering the fact that there is scarcity of water in the area while ample water required for the designed latrines 80% of our.

Working schools, hospitals and industries have failed because the passion for work in the people has vanished.

Here, a village was an independent unit where the decisions were made in Pananchyats (a selected wealthy and wise group of people who enjoy the status up so facto) not in the Lahore High Court.

The solution of our problems is an alternative knowledge and this we can learn being organized.

The concept of centralization has snatched our right from us, when we don't have knowledge, information, there isn't our participation in action, so, how we can be related to action and there is no concept of ownership without relation and thus we are not included in the process of development, the system which is made and imposed and the language which is used without the participation of the people do not belong to us. A report was published according to which 179 women work in the fields in our country but the fact is that more women are seen in the fields than the men.

The rights of a woman, laborer a farmer are not discussed in our assemblies because they have not any representative of their own there. 52% of the population of the country consists of Women but their evidence is considered to be half and nothing can be talked in the senate. The change or development of only those is possible who have their representatives in the senate or in the assemblies. The development work, first of all, is undertaken in Islamabad and then in Lahore. That's why it is said that Pakistan is the country situated only one and a half mile away from Islamabad and, likewise, the boundary of Pakistan ends outside Lahore. A common citizen is powerless as well as dependent.

Every citizen of Pakistan is indebted of Rs. 74000 and we are paying the interest in installments. The people need to be organized and work on the level of their respective areas.

The women need to step forward because every system has overlooked them. This slavish system is being run by putting us, sometimes, in the male-female division and,

sometimes, in the division of religion, caste, clan, nation. Our education system justifies that the Muslim is good and the non-Muslim is bad. It has become our conviction that woman cannot work equal to man. It is so because whatever the knowledge we got, what ever we listened we accepted and practiced it. We have to abandon this thought and change the relation of the ruler and the ruled. My freedom is co-related with yours. If you are free, I'll be free. We have to unlearn this knowledge. We have to come out of the knowledge of seventeen invasions of Ghazanavi... Aa Baba Aa (come old man, come) etc. we have to learn the knowledge that informs us of our rights, that authorizes us. It can't happen in an instant, it will take some time. None will speak for her rights until woman goes the Houses. We have made woman a second-rate citizen who is creative, a lover of the art, who knows how to organize, who possesses unlimited capabilities. We have to alter this system.

This is also a way, which the Bargad has adopted to gather the people, impart an alternative knowledge, and form the habit to put question. 170 billion rupees are spent on defense in our country. Have we ever put the question why it is happening we spend 40% of the total amount on defense and 42% on defraying the debts? Is a common person aware of it?

I congratulate the Bargad on their organizing the people in a small locality and being busy in imparting an alternative knowledge.

It is true that we are provided a controlled knowledge whether that is provided from a school, a mosque or somewhere else, need to get a substitute knowledge that we can get from the dialogue, a forum theatre. We have to break our limits and live together with other people so that we may get a true knowledge.

There are various ways and means to get knowledge and the observation is one of them, then a good relationship with nature. We have isolated ourselves from nature, from the people and, in this regard, particularly the urban middle class neither joins itself with the upper class nor with the lower one. We have the knowledge of Nawa-l-Waqt (voice of time) that is not even information for less knowledge. It merely bears disadvantage not any advantage.

In this country, two things have formed the thought __ the religion and the values. Now if I talk on these and deviation. 90% people of our country think that the

women should not be educated. 70% people assert that the women should not work and our reaction is this that we don't want to listen to, we don't analyze, we proceed in a circle, we start from the conclusion, we don't give margin to the things, we start from the religion and end on it. We have to look for a counter-measure.

We need to find alternative ways for an alternative knowledge and this is the only solution we can have. We can't change the syllabus, T.V. channel, Radio and every thing at once but we can organize in a group.

Gandhi Jee used to say that his politics started from the point that if a goat fell ill of a woman sitting in a cottage in the far-off area of a desert, how it should be cured.

The beginning of my thought is the process of a change where there is a solution to the problems of the people and the betterment of the life of a common man.

Uzma Zareen: On seeing the women working on the kiln around the office of the Bargad, I thought that these women should also be participated in the process of educating the women we can learn a lot from them. We need to organize the farmers, laborers and common people. We can learn a lot from one another. It is called Peer Education. I've worked on the village when we went to villages, we asked the women what they do in agriculture and they replied in negative. Woman added that she only stored the wheat after making it clean when it is brought home. Before the arrival of the Tractor and harvester, I used to work in the fields and now I can't operate the tractor or the machine. When she was asked which sort of milk she feed her baby with, she replied, "Haleeb." When all these points were considered, it became clear that when the woman used to work in the fields, her husband allocated a piece of land for her on which she grew the vegetables independently and, consequently, the fresh and green vegetables were abundantly available. Then she also tended the cattle and had complete hold on the consumption of milk due to which without even knowing about the concept of a balanced diet, she provided herself as well as the children a balanced diet. But with the introduction of technology, the woman was deprived of it. Now, people from the cities approach them and induce them about the balanced diet but they don't understand that the problem will not be solved only by telling them but there is great need to understand the whole system.

Aisha Habib: There are many difficulties in the way of peer education. When we came to the office of the Bargad for group discussion many educated people accuse that the girls are perverted here and concoct many stories about us.

Aqsa: We do know why we are subordinate but don't know how to come out of this subordination.

Iram Iqbal: The knowledge that we get from the colleges, we buy it but the knowledge we are getting from here is being achieved free of cost on conscious level.

Saiqa Rasheed: How can we undertake the political, economic analysis when we pick up one "Paper" it contains something and another the other wise and the news of the T.V. tells some entirely different story so, in this situation how we can analyze the things.

Ijaz Ahmad: Politically, our people are much indifferent and this has been ingrained on their minds that the politics is a bad thing. If the good don't enter its fold, all the rest must be bad. Therefore, there is a need that the young should be active politically. We ardently need to use the folk wisdom and appreciate our organic culture.

Uzma: We have to tame permission to go out of home. When we have to go somewhere, we have to explain in detail as to where we are going, why we are going and what we will converse over there and only then we are allowed to go some where. If the members of our family come to know that we talk here about the rights of the women, we will never ever be granted the permission to come here.

Salma Butt: Our syllabus must contain the mention of human rights, as this is the only best solution of the problem.

One-Day Seminar on Role of Youth in Promotion of Liberal and Democratic Values


A seminar was held at Best Western Hotel, Islamabad on 20th September 2001 to discuss the role of youth in promotion of liberal and democratic values.

God has given the right to men to beat their wives.

Ms. Sabiha was particularly disturbed about the views of these women because many of them have been elected

members of the local bodies.

How can they work for the rights of women if they do not know anything about these rights, she said.



The Seminar was organized by Bargad, a Gujranwala based NGO, working with the youth to promote liberal and democratic values.

The Seminar was attended by a large number of students and faculty members (250 in total) from Quaid-I-Azam University, Islamabad, Fatima Jinnah Women University, Rawalpindi, Islamic International University, Islamabad, Punjab University, Lahore, and Institute of Leadership and Management, Lahore. The representatives of civil society institutions, international non-profits, media, and bar were also present.

Director Bargad Ms. Sabiha Shaheen presented the findings of her survey with 300 women regarding their opinion about the value system of our society particularly the prevalence of liberal and democratic values in the family

and school environment. She had dialogue with women between ages 15-60 in Gujranwala. Some of the women were highly educated while others were completely illiterate. She told that half the women knew nothing about

democracy. There were few who simply refused to talk about values. The researcher was astonished to listen from a graduate of National College of Arts that God has created women one degree lesser than men. The less educated and illiterate women working in households had even more regressive ideas. They held the opinion that


Prominent economist and intellectual Mr. Kaiser Bengali defined the democratic values and put them in historical context. He was of the opinion that had there been democracy in Pakistan, United States of America could not row beat Pakistan to cooperate against Afghanistan. He considered Pakistan Army as the biggest culprit for failure of democracy in Pakistan. He was also critical of the courts where justice is a purchasable commodity. He said that provision of basic necessities like shelter, food and other requirements for a decent life are part of basic human rights and unless these are provided there can be no democracy.

Mr. Akhtar Kureishi, Chairman Department of Psychology, Government College Lahore spoke about the psychological aspect of violence. He said that children should not be disciplined in homes and schools by use of violence. Otherwise they will come out as violent members of the society. He pointed out the double standards of US government which olds that if Osama Bin Laden kills Soviets then he does not commit violence, however if he kills American he is terrorist.

Ms. Rubina Saigol spoke about the role of women in promotion of liberal and democratic values. She said that that presently no state is truly liberal and democratic. Some people consider US as a perfect example of such

a state but the racial hatred against Muslim people observed after the W.T.C. affair refutes that view. American sweep on the deaths of 5000 in New York (which is in any case sad) but they do not respond to the

Ex-Secretary Punjab Bar Council Mr. Abid Saqi said that the founder of Pakistan should have chosen the office of governor General instead of Prime Minister. This could



deaths of 500, 000 children in Iraq or thousands of killings in Palestine, Kashmir and Afghanistan.

She said that the Pakistani women do not have right to express themselves, marry the person they like (which is the right given to them by Islam). She said that not only women but also other marginalized groups like laborers and agricultural workers do not have basic human rights in Pakistan.

Ms. Saigol was critical of the recent policy of the Govt. to discourage social sciences. She reported that the NWFP Govt. has recently banned teaching social sciences in many female colleges. She said that IT and Management are important disciplines but no nation can afford to give up other disciplines for these two. She said that to be a wholesome being you have to read literature, Sociology, Political Science and other social sciences.

Dr. Aslam Syed (Professor of History at Quaid-I-Azam University, Islamabad) said that their generation could not shape Pakistan into a liberal and democratic polity and now it is up to the new generation as to what do they contribute for this goal. He said that the predominance of the TV and computer screen has made the human beings more controllable. r. Zafrullah Khan said that he supports the idea of teaching social sciences but it does not mean that we should not use he computer, which is a remarkable tool for gaining knowledge on whichever subject. He said that individual must have choices. There may not be any coercion.

help in maturing the parliamentary institutions. He said that we are taught fake history in schools. He said that we might launch a strong movement to correct the syllabi. He said that e ill have to go through the process of collective self-criticism to rectify the situation. We will have to call the spade a spade.

The most remarkable part of the Seminar was the overwhelming and enthusiastic participation of students. They raised very critical and pertinent questions relating to politics, economic situation in country, and failure of Pakistan to grow as liberal and democratic country as envisioned by the Quaid-I-Azam. The discussion was frank, open, and directed towards finding ways to mobilize youth. The young participants were particularly perturbed about the fact that a handful of people with an obscurantist agenda have kept the whole nation hostage.

Ejaz Ahmed, Convener of the Bargad's Youth Forum, said that our political culture couldn't see a change unless the youth, particularly students, take part in political process. He stressed the need to make a collective and concerted effort to promote democracy in Pakistan. He said young people should engage in politics. He also refuted the view that young people of Pakistan are indifferent towards sociopolitical problems of the country. They merely do not have a forum. He said we at Bargad are striving to provide that forum to the youth of Pakistan.

Bargad's Theatre and Puppetry group made a symbolic theatrical performance on the occasion.

Chotti Chotti Batain

Punjab University, New Campus, is one of the beautiful places in Pakistan. Thick trees and wide roads on both sides of the canal, long spread green lawns in the vicinity. Different departments on one side of the road and on the other side a long chain of hostels, sugar cane juice vendor beside the road, Dahi Bhalay, Chali wala, and ice cream. Benches are lying around these vendors but girls are not allowed to visit on them. Several speed breakers on the road make one feel that you are roaming in your own kingdom and need not give way to any passing by cars. It's your own campus all around, your own kingdom, nothing from the outside world is visible except the traffic and that indeed irritates.

On my first day in this beautiful campus, I showed up along with Talha and Fasih. (Talha and Fasih were studying in NCA, now they are husband and wife, Talha is my best friend and Fasih is very dear to me.) We always remained together. I went into classroom and they sat outside together on a bench.

In the meantime, Abdul Basit Ch. Showed up. (He belonged to Gujranwala and was an old student of Philosophy Department. He is also a close friend of Talha's elder brother, Khurram Rathore.) When he saw them sitting together, he at once took them upstairs in library and told them not to make the mistake of sitting together again in campus. I met with Abdul Basit Ch. The same day and some how or the other he and I became brother & sister henceforth. And for rest of two and half years of my stay at campus, he would time and again try to make me understand that nobody could end the persecution and torture in the campus.

I had learnt it at home to raise voice against injustice. I hail from a family where the doors of school were closed to girls. There was no concept of a girl leaving the four walls alone and independently. Women would only go out either wearing a veil or fully clad in a "Chader" under the shadow of a male. We heard a "tale" in child hood that once a girl of our distant relatives developed some relationship with a boy and my paternal uncle murdered her. It was honor killing. Parents of the girl gave a statement in favor of my uncle. Since it was a matter of honor and dignity of the family, judges also have a soft corner in such cases, my uncle was sentenced to jail for a few years. My grandfather killed two Sikh landlords before independence because they had cast a "bad eye" on the women of our family. It was his sheer good-luck that soon after that incident, India was divided, and he was freed after independence. This was the second "tale" our father would often tell us in childhood. (Children are generally told fairy tales)

The best place for a respectable woman is her home. Nobody even knows the names of the woman of honorable families. Our grandmother used to advise us that daughters should eat cheese whereas the sons eat butter. When the women from neighborhood came to get "Lasi" from our house, our elders told us they belonged to the lower castes and since we were from an honor able family we should not interact with them.

I have glimpses of those memories in my mind but since these topics became under discussions in later life. It seems to me that it all is part of my memory.

Once many people gathered to live in the large gallery of our house where I saw a lot of guns. Then we learnt these were Qadianis who had taken refuge in our house because there was a countrywide movement against them and there was eminent danger to their properties and lives. My father openly supported them and consequently bought the opposition of Mulvis and hard liners. In those days, it became known that my father was a Qadiani too. My father was of the view that Islam is accommodative to ward other religions and schools of thought. Nobody had the right to kill another individual or cause danger to his property. He was the same person who was party to those who planned the murder of a woman in the name of honor. And now he was facing opposition of the whole of Rahwali for a just cause.

My political education began at the age of seven. My father was active in local politics and I would love to listen to his political ideas.

Mr. Bhutto was my favorite politician. A district convention of women was held at our house. I took part in the preparations for the meeting. I was pretty enthusiastic and asked several questions from my father about the event. At last the day came and there was a large crowd of women in our house. Wife of Mian Azhar Hasan Dar (MNA), wives, sisters, and mothers of others political activists addressed the gathering. I took great interest in all the speeches. My elder brother was opposed to that meeting because he was a staunch supporter of Qumi Ithad movement. The flag of People's Party was flying on the top of our house and my elder brother affixed the flag of Qumi Ithad on the building of our factory. But my father did not mind it. Opponents of my father took my brother to the meetings of Qumi Ithad, sat him on the stage and urged him to speak against People's Party. Interestingly, he was only nine years old then. My father never stopped him; he would rather smile and say, "My son is opposing me." My brother tried his best to make me realize that Bhutto's govt. was dangerous for the country and they would convert Pakistan into an unislamic state. We both argued to convince each other. Our house was a hub of discussions on national and international politics. Even if I did not directly participate in those discussions, I, however, was a

LETTER TO EDITOR

The Respected Editor,

I hope you will be fine. I received your magazine, read it and was much glad that you mentioned the problems of the students, which they face at educational institutions in detail.

I am sending some suggestions for the seminar you are going to hold: proper guidance of the students, financial difficulties, the role of print and electronic media and the role of the political parties.

Mohammad Javed
Mughalpur, Lahore.

The respected M. Javed,

Tanks for your letter.

Your suggestions have been noted down and we shall, certainly, bring them under discussion in our study circle as well as seminar we look forward to receiving your suggestions in future too.

Dear Editor,

I read your magazine with keen interest and would like to appreciate your selection of the theme, "Violence in Educational Institutions." Number of articles and interviews in BARGAD rightly delineate the malaise currently plaguing our educational campuses. Your commitment to promote Liberal & Democratic values sounds promising. Congratulations!

In many societies campuses orchestrate contemporary intellectual waves and stimulate futuristic activism among the youth. But unfortunately ours is the sad story. In 1980s military regime quite systematically curbed

academic freedom and de-politicized campuses to look like living graveyards both the independent academicians and liberal students.

The contents of your magazine remind me of my days at campus, especially the story about my alma mater, Quaid-I- Azam University. Things were bad but not that worse. In 1988 as the chairperson of People's Students Federation at Quaid-I-Azam University, Islamabad I was able to successfully negotiate with the heads of all ethnic councils to dissolve their organizations and merge into the federal PSF. The said merger worked for about two- years.

One factor that appears to be missing in your magazine is the death of discourses, debate, and discussions in various students' societies, literary magazines and research journals with sufficient funds to serve as an engaging and humanizing factor at the campuses. May be that aspect can become theme for your next issue. Similarly you can conduct interesting surveys among students at major campuses to ascertain their views on different national questions and concerns.

With best wishes for your future endeavors.

Zafarullah Khan,
Project Coordinator,
FNF

Dear Zafarullah Khan,

Thanks for your valuable inputs and feedback.

Bargad has established groups in institutions for discussions and debates. We hope you will keep in touch with us in future.

Editor



ИЗ КОИ

عورت

عورت

عورت

عورت

اور

سیاست



پریک

جمہوری اور ترقی پسند اقدار کی ترویج



عورت اور سیاست عورت اور سیاست

عورت اور سیاست عورت اور سیاست



عورت اور سیاست عورت اور سیاست

عورت اور سیاست عورت اور سیاست

دوسرا شمارہ: اگست، اکتوبر ۲۰۰۱

برگد جمہوری اور ترقی پسند اقدار کی ترویج

دوسرا شمارہ۔ اگست اکتوبر ۲۰۰۱ء

مدیر: اعجاز احمد

نائب مدیر: سرمد رضانا نیک

فہرست

- ۲..... اداریہ
- ۴..... عورت اور جمہوریت
- ۶..... عورتوں کے ساتھ تشدد اور امتیازی سلوک میں ہماری اقدار کا کردار
- ۸..... چیٹ @ برگد
- ۱۱..... موجودہ صورتحال پر طالب علموں کی رائے
- ۱۳..... شمالی پنجاب کی ناک
- ۱۴..... سیاسی اور معاشرتی تبدیلیوں کے مضمرات
- ۱۷..... جمہوری اور ترقی پسند اقدار کی ترویج میں نوجوانوں کا کردار
- ۱۸..... چھوٹی چھوٹی باتیں
- ۲۰..... سرگرمیاں @ برگد
- ۲۱..... ممبران @ برگد
- ۲۲..... آپ کی رائے

برگد، گلی نمبر 1، شالہ رحمت، راہوالی، گوجرانوالہ، پاکستان۔

☆ ہمارا پتہ ہے

فون نمبر: 861051-298052 (92-431) ای۔ میل: bargadpk@hotmail.com

barged@brain.com.pk

فی کاپی ۰ ارپے سالانہ فیس ۳۰ روپے

تعاون: ہمیزچ ہال فاؤنڈیشن۔ جنوبی ایشیا، دفتر، لاہور، پاکستان۔

اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی جماعتوں اور ضلعی حکومتوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ عورتوں کی سیاسی شرکت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو توڑیں ماہرین کی رائے میں مسلط سیاسی نظام اور رائے دہی کے طریقہ کار میں موجود ناہمواری عورتوں اور مردوں کے درمیان نمائندگی کے تناسب میں فرق کی ذمہ دار ہے جس کے تحت مردوں کے لیے سیاست کے دروازے با آسانی کھل جاتے ہیں۔ اس ناہمواری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی فیصلوں کے تمام مراحل میں عورتوں کی شمولیت کے بغیر برابری، منطقی اور امن کے مقاصد حاصل نہیں کیے جاسکتے۔

اہم اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ مقامی سطح پر عورتوں کی سیاسی شرکت جو کہ قومی سطح کے مقابلے میں نہایت آسان ہے اس بات کی دلیل نہیں کہ عورتوں کو با اختیار بنایا جا رہا ہے اور انھیں فائدہ پہنچ رہا ہے بلکہ اس سے تو تمام معاشرے کی عورتوں کو، ان کے فہم اور تجربے سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا اور اچھی حکومت کو فروغ ملے گا۔ کیونکہ عورتوں کی شمولیت ہی سے نظام جمہوری ہوگا جیسا کہ عورتیں دنیا کی آبادی کا پچاس فیصد ہیں۔

بے شک مردوں اور عورتوں کی سیاست میں برابری ایک خوشحال سیاست کو فروغ دے سکتی ہے جس میں عورت اور مرد دونوں حقوق اور ذمہ داریاں بانٹیں اور اس کا اطلاق سب سے پہلے ایک گھر پر ہونا چاہیے۔ آج عورتوں

ہمارے لیے یہ امر باعث مسرت ہے کہ پہلے شمارے کو یونیورسٹی کے طالب علموں اور استاذہ میں خاصی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی معاشرے کے دوسرے طبقوں میں بھی پذیرائی ملی خصوصاً شعبہ ترقی سے منسلک افراد نے اسے بہت سراہا حیرت کی بات یہ ہے کہ تنقید ہماری توقعات سے کم رہی۔ اس لیے مزید بہتری کی بہت گنجائش موجود ہے۔

جو شمارہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے وہ زیادہ تر عورتوں کی سیاست میں شمولیت اور نمائندگی پر بحث کرتا ہے۔ موجودہ فوجی حکومت کی جانب سے متعارف کرائے گئے نئے نظام میں عورتوں کی نمائندگی کے تناسب کو خاصا بڑھایا گیا ہے اور حکومت نے عہد کر رکھا ہے کہ اس پالیسی کو صوبائی اور قومی سطح پر بھی برقرار رکھا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا مقامی سطح پر عورتوں کی نمائندگی بڑھانے سے کوئی نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے برگد کے نمائندوں نے نئے نظام کے تحت منتخب عورتوں کی نمائندگان اور ووٹروں کے انٹرویو کیے۔

ہماری معلومات کے مطابق نمائندگی عورت کے سیاسی کردار کا ایک پہلو ہے زیادہ اہم پہلو سیاسی عمل میں شرکت ہے۔ شرکت کے بغیر نمائندگی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ منزل سیاسی تعلیم اور جمہوری تربیت کے بغیر پانا ممکن نہیں۔ تاہم اس بات کو بھی جھٹلایا نہیں جاسکتا کہ موجودہ نظام کے تحت عورتوں کی نمائندگی بڑھانے سے نجلی سطح کی سیاست پر اثرات مرتب ہوئے ہیں چاہے ان کی شدت بہت ہی کم کیوں نہ ہو آج عورتیں سیاسی مباحثوں میں بڑھ چڑھ کر شریک ہو رہی ہیں جس سے ان کا سیاسی شعور اور فہم یقیناً بڑھے گا۔

کو ایک اور تاثر کو ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ سیاسی عمل اور قیادت میں حصہ لینے کی وجہ سے وہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں سے بخوبی انصاف نہ کر سکیں۔ دوسرا یہ کہ عورتوں کو مالی مشکلات کا بھی زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے رائے دہندگان کے سیاسی فہم اور سیاسی قدروں کو نجلی سطح پر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ رائے دہی کے نظام میں بھی تبدیلیاں متعارف کروانے کی ضرورت ہے۔ بلخصوص رائے دہی پراٹھنے والے خرچے کی حد متعین ہونی چاہیے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ زیادہ خرچے کے باعث بہت سی عورتیں الیکشن لڑنے سے محروم رہ جاتیں ہیں۔ علاوہ ازیں ایک طریقہ مناسب نمائندگی کا بھی ہو سکتا ہے۔ مناسب نمائندگی میں جماعتی فہرستوں کی سکیمیں شامل ہیں جن کے بارے میں ماہرین کی رائے ہے کہ یہ عورتوں کے لیے عوامی عہدوں پر پہنچنے کا ایک اچھا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جنسی تفریق کو ختم کرنے والی تبدیلیاں حکومت کی ہر سطح پر ہونی چاہیں خصوصاً ان کو پالیسیوں اور بجٹ کا حصہ بننا چاہیے۔

عورتوں کی سیاسی نمائندگی اور شرکت کو بڑھانے کے لیے جو اقدامات حکومتی سطح پر اٹھائے جاسکتے ہیں ان میں حکومت کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ عورتوں کے لیے ہر سطح پر نمائندگی کو بڑھائے تاکہ مردوں اور عورتوں کے درمیان خلیج کو کم کیا جاسکے کیونکہ مردوں کو معاشرہ، ثقافت اور معاشریت تینوں ہی سیاسی عمل میں مدد دیتے ہیں۔

ماہرین کی رائے میں ملک بھر میں عورتوں کی مقامی قیادت کے درمیان مضبوط رابطہ کاری ہونی چاہیے تاکہ وہ مالی وسائل پیدا کرنے کے لیے مل جل کر لائحہ عمل طے کر سکیں، امیدوار عورتوں کی تربیت ہو سکے اور اس کے ساتھ ذرائع ابلاغ میں عورتوں کے خلاف تعصب کو ختم کیا جاسکے۔

جہاں تک عورتوں کے لیے علیحدہ کوٹے کی بات ہے تو وہ ہم نے حالیہ مقامی نظام میں دیکھ لیا اور ماہرین کا خیال ہے کہ اس تبدیلی سے ضلعی سطح پر موجود ایوانوں کی جنس پر خاصا فرق پڑا ہے۔ لیکن عورتوں کی قیادت کا کہنا ہے تبدیلی کا یہ عمل سیاسی جماعتوں سے شروع ہونا چاہیے۔ ان جماعتوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو رکن بنائیں اور پھر رائے دہی کے وقت ان عورتوں کو بھرپور حصہ لینے کا موقع فراہم کریں۔ اس سے مردوں اور عورتوں کی نمائندگی 50:50 کے تناسب کی منزل طے کر سکتی ہے۔ مزید براں عورتوں کو مقامی حکومتوں کی ملازمت میں بھی بھرپور نمائندگی حاصل ہونی چاہیے۔

ایک تحقیق کے مطابق ۱۹۹۵ سے ۲۰۰۰ تک دنیا بھر میں قانون ساز اداروں میں عورتوں کی نمائندگی کی شرح ۱۰ فیصد سے بڑھ کر ۱۳ فیصد ہوئی۔ اس رفتار سے مردوں اور عورتوں کے درمیان ۵۰:۵۰ کے تناسب تک پہنچنے میں مزید ۷۵ سال کا عرصہ درکار ہے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں، عورتوں اور رائے دہندگان کو جمہوری اقدار سے واقفیت پیدا ہونے میں خاصا وقت لگے گا۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ سیاست میں مرد اور عورت کی برابری آسان نہیں کیونکہ مرد سیاست سے محبت کرتے ہیں۔

سوال محض تعداد ہی کا نہیں عورتیں ایک سیاسی ثقافت کی خواہاں ہے جو جنسی تفریق سے پاک ہو۔ جیسا کہ عورتوں کے لیے مخصوص نشستوں کو کم رتبہ نہ سمجھ جائے۔ اسی طرح تمام منتخب نمائندگان کو ایک جیسے اختیارات حاصل ہونے چاہیں۔ چاہے وہ عام نشست پر چنے گئے ہیں یا مخصوص نشست پر۔

نسیمہ امجد بخاری گوجرانوالا سٹیٹس ٹاؤن کی منتخب کونسلر



میں الیکشن لڑنے کے لیے قطعی تیار نہ تھی کیونکہ میرا خیال تھا کہ یہ شریف عورتوں کا کام نہیں ہے ہمارے ہاں زیادہ تر سیاست دان غلط، اغوا کرنے والے اور مار کٹائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اپنے بیٹے کے سمجھانے پر میں تیار ہو گئی مگر اب میں سمجھتی ہوں کہ میں غلط تھی عورتوں کو سیاست میں ضرور

آنا چاہیے وہ عملی سیاست میں حصہ لے کر ہی عورتوں کے مسائل حل کر سکتی ہیں۔ جتنی بھی عورتیں آئی ہیں ان کی سیاسی سوجھ بوجھ نہ ہونے کے برابر ہے ان کو تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ مجھے جتنے بھی ووٹ ملے ہیں وہ سب مجھے میرے خاندان اور بیٹے کے تعلقات کی وجہ سے ملے ہیں۔ ہماری عورتیں گھروالوں کی مرضی سے ووٹ ڈالتی ہیں۔ عورتیں خواتین کونسلز کی وجہ سے بہت خوش ہیں اور بر ملا اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ اب ہماری بھی سنی جائے گی، خواتین کو مسائل بتانے میں بھی آسانی ہوگی۔ عورتوں کو نہ تو یہ معاشرہ اور نظام حقوق پورے دیتا ہے اور نہ ہی مرد دیتے ہیں۔ اگر مرد عورتوں کو برابری کا درجہ دیں تو ان پر تشدد نہ کریں۔ مرد برابر سمجھنا تو دور کی بات عورتوں کو انسان بھی نہیں سمجھتے۔

ہمارے ہاں جمہوری رویہ بالکل نہیں ہے اور نہ ہی ہم ترقی پسند اقدار کو اپناتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے ہمارے ہاں بیٹی کو بیاتہ ہوئے والدین یہ کہتے ہیں کہ بیٹی اب اس گھر سے تمہارا جنازہ نکلتا چاہیے لہذا بیٹی جنازے کا انتظار کرتی رہتی ہے گراف نہیں کرتی۔

کشور بدو کی گوسائیاں

عورتوں نے سیاست میں کیا حصہ لینا ہے ان کو تو والدین تعلیم تک نہیں دلاتے کہ انھوں نے تو اگلے گھر چلے جانا ہے لڑکوں نے کما کر کھلانا ہے لہذا ان کو زیادہ کھلانا پلانا چاہیے اس لیے ہمارے ہاں بچیوں کو کھانا کم دیا جاتا اور لڑکوں کو زیادہ دیا جاتا اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ لڑکیاں جلدی جوان ہو جائیں گی تو ان کی شادیاں جلدی کرنی پڑیں گی اس لیے ہمارے معاشرے میں ایک ہی عمر کے مرد اور عورتیں اگر ایک ساتھ کھڑے ہوں تو عورتیں بوڑھی دکھائی دیں گی اور مرد جوان لگیں گے۔ اس سسٹم کو ختم ہونا چاہیے اور یہ اسی طرح ختم ہو سکتا ہے کہ عورتوں کو تعلیم دی جائے آگاہی دی جائے بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ حکومت کو پابندی لگا دینی چاہیے کہ میٹرک پاس کئے بغیر کسی لڑکی کی شادی نہ کی جائے۔ اور پسند کی شادی کا حق اسلام نے دیا ہے اس لیے ہم کون ہوتے ہیں اس حق کو چھیننے والے اور اگر ہم مسلمان ہیں تو

ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے ہم نے اس کی بجائے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ مردوں کو پسند کی شادی پر کچھ نہیں کہتے اور عورتوں کو پسند کی شادی پر کوسے رہتے ہیں۔ عورتوں نے ووٹ کے حق کو استعمال کیا کرنا ہے ان کو جہاں ان کے میاں کہتے ہیں وہ جا کر اس نشان پر مہر لگا آتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو حکومت بنتی ہے اس میں عورتوں کی کوئی شمولیت نہیں ہے۔ اب دیکھیں لوکل باڈی گورنمنٹ یا ڈیولپمنٹ پلان کا ذکر ہوتا ہے مگر مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں اگرچہ مجھے سیاسی سوجھ بوجھ ہے میرا تعلق سیاسی خاندان سے ہے ہماری عام عورت کو اس کا کیا پتہ ہو سکتا ہے اس پر تو تربیتی پروگرام چلانے چاہئیں۔

ہمارے ہاں عورتوں کو نہ صرف سیاست میں ضرور آنا چاہیے بلکہ کام ضرور کرنا چاہیے ہمارے ہاں روپے کی قیمت کس قدر گر چکی ہے ایک گھر میں ایک کمانے والا اور دس کھانے والے ہوتے ہیں عورتیں کام کریں گی تو گھر کی حالت بھی بہتر ہوگی اور ان کی اپنی زندگی بھی بہتر ہوگی۔

روبینہ اعجاز، کیفیٹو نمینٹ بورڈ لیڈی کونسلر

کی حیثیت سے ڈھائی سال کام کر چکی ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں گھروالوں کی مرضی اور اپنے فیصلے سے سیاست میں آئی ہوں کیونکہ ہمارے گاؤں میں بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ عورتوں کو مرد بری طرح مارتے ہیں ان کے جسموں پر نشان پڑ چکے ہوتے ہیں یہ عورتیں کینٹ کے علاقے میں سارا دن گھروں میں کام کرتی ہیں اور شام کو گھر معمولی بات پر میاں سے مار کھاتی ہیں اس کے علاوہ زیادہ تر ان کے میاں ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو پوری نہ کرنے کی صورت میں ان کو تشدد دسہنا پڑتا ہے۔ میاں زیادہ تر نشے کے لیے پیسے مانگتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو ووٹ کے حق کا کیا پتہ ہوگا میاں یا بھائی کی ہدایت پر ووٹ ڈال آتی ہیں بلکہ بعض اوقات تو عورتیں نا سمجھی کی بنا پر سارے نشانات پر مہر لگا دیتی ہیں جس کی بنا پر ووٹ ضائع ہو جاتا ہے حالانکہ ووٹ کا استعمال سوچ سمجھ کر اور ضمیر کی آواز پر کرنا چاہیے۔ عورتوں کو تعلیم اور تربیت کی سخت ضرورت ہے اور جو عورتیں آج الیکشن لڑ رہی ہیں ان کو بھی سیاست یا لوکل باڈیز پر پروگرام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ عورت خواہ پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ وہ اپنی مرضی سے ووٹ نہیں ڈال سکتی اگر وہ ایسا کرے گی تو گھر میں لڑائی ہوگی۔ اگر ہم عورتوں کے گروپ بنانے چاہیں گے یا ان کی تربیت شروع کریں گے تو ہمیں بہت مشکل ہوگی کیونکہ مرد بہت مزاحمت کریں گے اور دیہاتی علاقوں میں ہم مردوں کی مرضی کے بغیر عورتوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے اس لیے ضروری ہے کہ مردوں کی بھی تربیت کی جائے۔ ہمیں ایسے ادارے یا دفاتر ضرور بنانے چاہیں جہاں عورتیں اپنی شکایات کر سکیں کیونکہ دیہاتوں میں تو ایسا بھی ہوتا

ہے کہ لڑائی جھگڑوں کے بعد مرد اپنی بیویوں کے نکلے نکلے کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے مرد عورت کا مجازی خدا ضرور ہے مگر اس کو حقوق تو پورے ملنے چاہیں عورتوں کو پسند کی شادی کا حق ملنا چاہیے کیونکہ یہ حق اس کو خدا اور مذہب اسلام نے دیا ہوا ہے۔ عورت کو روز اول سے ہی مرد کے برابر چلنا چاہیے اگر وہ شروع سے اس کو سمجھا کر چلے گی تو اس کو بعد میں مشکل نہیں ہوگی۔ ویسے میں نے دیکھا ہے کہ لڑائی جھگڑوں میں عورتوں کا بھی تصور ہوتا ہے وہ مرد کو آگے سے جواب دیتی ہیں اس لیے مار کھاتی ہیں۔

شاہ بانو

آجکل وہ گوجرانوالہ میں اپنے گھر کے اندر ایک آرٹ اکیڈمی چلا رہی ہیں۔

میں نے حالیہ ہونے والے الیکشن میں حصہ لینے کا پکا فیصلہ کر رکھا تھا مگر میری والدہ نے اس بنا پر مخالفت کی کہ ہمارے منتخب ہونے والے ونسٹر جرم پیشہ ہوتے ہیں میں نہیں چاہتی کہ میری

بچی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے یا ان کے ساتھ س کا من جن ہو۔ خدا نے عورت کو مرد سے ایک درجہ کم بنایا ہے مگر مرد عورت کو کئی درجے کم سمجھتا ہے جو عورت کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہاں تک ہوتا ہے کہ بیٹوں کے لیے گھر نہیں بنا دیا جاتا ہے اور لڑکیوں کا ذہن اس طرح کا بنادیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتی ہیں۔ اس لیے وہ اپنے گھر میں بھی زیادتی برداشت کرتی ہیں اور سسرال میں جا کر بھی ہر طرح کا ظلم سہتی ہیں۔ نین اب حالات بدل رہے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم عورتوں کو زیادہ سے زیادہ باشعور بناتے ہیں۔

عورتوں کو سیاست میں ضرور آنا چاہیے اور اس کے علاوہ بھی ان کو کام کرنا چاہیے۔ گوجرانوالہ میں عورتوں کو کام کے حوالے سے زیادہ مشکلات ہیں جبکہ بڑے شہروں میں کم ہیں۔ تعلیمی اداروں کا موازنہ کرتے ہوئے شاہ بانو نے کہا کہ نیشنل کالج آف آرٹس کا ماحول ایسا ہے کہ آپ وہاں نہ صرف تعلیم حاصل کرتے ہو بلکہ پوری زندگی کے آداب سیکھتے ہو۔ وہاں آپ کو مکمل ذہنی آزادی کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے ترقی پسند انداز کی ترویج کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے جتنا کام چار سالوں میں کیا ہے میں ساری زندگی نہیں کر سکتی تھی۔

استاد اور شاگرد کے درمیان ایک رشتہ پایا جاتا ہے یہ ساری چیزیں کسی اور تعلیمی ادارے میں نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں سے نکلنے والے سٹوڈنٹس نہ صرف پروفیشنل زندگی میں بلکہ ذاتی زندگی میں بھی کامیاب انسان ہوتے ہیں۔ میں نے چند مہینے پنجاب یونیورسٹی فائن آرٹس ڈیپارٹمنٹ میں گزارے تھے مگر وہاں شدید گھٹن کا ماحول تھا اگر آپ کلاس فیلو سے بھی بات کرتے تو جماعتی آجاتے پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ عورتوں کو ہر شعبہ زندگی میں آنا چاہیے یہ وقت اور ہمارے معاشرے کی

ضرورت ہے۔

عشرت رشید

پینپلز کالونی، گوجرانوالہ میں بلا مقابلہ کنسلر منتخب ہوئی ہیں۔ یہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بس اللہ کا حکم تھا کہ میں کنسلر بن گئی ہوں یا پھر رانا صاحب کی مہربانی ہے۔ عورتوں کو اس شعبہ میں آنا چاہیے مگر امیر عورتوں کے کوئی مسائل نہیں اگرچہ وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ ہمارے بہت مسائل ہیں، مگر مسائل تو ہم غریب لوگوں کے ہیں ہمارے پاس رہنے کو گھر نہیں ہوتا، بچوں کو پڑھانے کے لیے فیس نہیں ہوتی، بچیوں کی شادی کے لیے

پیسے نہیں ہوتے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان مسائل کا حل کیا ہے تو انھوں نے کہا: ہمیں اپنے گھروں سے ٹی وی، ڈش، اور کیبل کو ختم کرنا چاہیے اور اب سونے پہ سہاگہ کہ کمپیوٹر ایک اور فحاشی کی چیز آگئی ہے جس پر بچے نگلی تصویریں دیکھتے ہیں۔ ان چیزوں کے خاتمے سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔

اس سوال پر کہ مسائل کا ان چیزوں سے کیا تعلق بنتا ہے انھوں نے کہا مذہب ان چیزوں کی مانع کرتا ہے اور ہم بازنہیں آتے تو ہم پر عذاب الہی مسائل کی صورت میں آتا ہے۔ اس نقطہ پر کہ آج کہ جدید دور میں ہم ان چیزوں سے الگ ہو کر کوئی کام نہیں کر سکتے انھوں نے خاموشی اختیار کر لی اور کافی دیر کے بعد کہا ان چیزوں کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے۔

جمہوریت اور موجودہ نظام پر انھوں نے کوئی تبصرہ نہ کیا۔

شہناز بی بی

مجھے تو اچانک پتہ چلا کہ میرے دیور نے میرا نام لکھوا دیا میں نے کہا کہ میں تو کبھی بولی نہیں مجھے تو تقریر بھی نہیں کرنی میں تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ میں سیاست کیسے کروں گی باقی سارا وقت خاموش رہیں اور بار بار بڑانے پر بھی مسکرا کر خاموش رہتیں۔

نعیمہ اقبال

مجھے بھی گھر والوں نے الیکشن لڑا دیا مگر میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو ضرور الیکشن لڑنا چاہیے اور اس میدان میں آنا چاہیے۔ عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے بلکہ میں خود بھی اپنے بیٹے کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرتی ہوں۔



باہم گروہی گفتگو

زندگی میں کب مجھے محسوس ہوا کہ کاش میں لڑکا ہوتی۔

سنبل: میری پیدائش سے پہلے سب لڑکے کی پیدائش چاہے تھے میری پھوپھو نے کہا تھا کہ اگر لڑکا ہوتا تو میں لوں گی۔ میری پیدائش پر سب کے منہ لٹک گئے سب کو مایوسی ہوئی۔ آج تک اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ میں بلا ضرورت آگئی ہوں میری کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کاش تم لڑکا ہوتی۔ (یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی۔)

ارم اقبال: میں نے میٹرک کے بعد پری انجینئرنگ رکھنا چاہا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ مضمون لڑکیوں کے پڑھنے کا نہیں لہذا مجھے میڈیکل پڑھنا پڑا۔

پھر ایک بحث چھڑ گئی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے لڑکیوں کی پیدائش پر مٹھائی کیوں نہیں منگوائی جاتی وغیرہ وغیرہ۔ زمانے کا فرق ہوتا ہے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا اب نہیں ہوتا اب حالات بدل گئے ہیں۔

اقصی: مجھے ہر روز یہ سننے کو ملتا ہے کہ اگر تم لڑکا ہوتی تو ہمیں کوئی فکر نہ ہوتی۔ یہ الفاظ مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ (یہ کہتے ہوئے اقصی کی آواز بھرا گئی۔)

ارم اقبال: مائیں ہمیشہ بیٹیوں کو سمجھاتی ہیں بیٹوں کو کیوں نہیں کہتی کہ باہر نکل کر لڑکیوں کو نہ دیکھا کریں۔

سارہ رشید: کیا کیا بتاؤں؟؟؟ ہر گھر میں عورت کا حق دیا جاتا ہے۔

صائقہ رشید: ہمارے محلے میں ایک خاتون کی چار بیٹیاں ہیں وہ سارے گھر والے ہر وقت دعا لیتے ہیں کہ ان کی بیٹی لڑکا بن جائے کئی دفعہ وہ تھوڑا اور دم کرواتے ہیں اس

سارہ ڈار: مجھے کبھی احساس نہیں ہوا۔ (جب اس بات کو دہرایا گیا اور کہا کہ کیا تم ہر وہ کام کر سکتی ہو جو تمہارا بھائی کر سکتا ہے تو اس نے کہا۔)



طرح اس بچی کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا۔

سارہ ڈار: نہیں میں ڈرائیونگ نہیں کر سکتی جبکہ مجھے ڈرائیونگ کا بہت شوق ہے۔

ثروت حبیب: اس طرح اس لیے کیا جاتا ہے کہ فائدہ دیکھا جاتا ہے۔ سدرہ شبنم: میرے تایا کے چار بیٹوں کی شادیاں ذات سے باہر ہوئی ہیں مگر ان کی ایک بیٹی ذات سے باہر شادی کرنا چاہتی ہے مگر اس کی نہیں کی جاتی۔ میں نے جب اس پر تکرار کی اور دلائل دئے تو مجھے جواب دیا گیا کہ وہ لڑکے ہیں۔

سدرہ شبنم: بہت دفعہ ایسے لگا ہے۔ مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر تم نہ ہوتی تو مجھے کوئی پریشانی نہ ہوتی تم اگر لڑکا ہوتی تو مجھے مخلوط تعلیم پر کوئی اعتراض نہ ہوتا میری والدہ اس قسم کے جملے بول کر مجھے تکلیف پہنچاتی ہیں۔

مقدس اقبال: میں نے پہلے اس طرح کبھی نہیں سوچا تھا ابھی آپ کے سوال کے بعد میں نے سوچنا شروع کیا تو مجھے یاد آیا کہ میرے والدین مجھے سعودی عرب ساتھ نہیں لے کر گئے تھے نانی کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ اگر میں لڑکا ہوتی تو وہ بھی ایسا نہ کرتے۔

ثروت حبیب: جب میں چہرہ چھپا کر کہیں جا رہی ہوتی ہوں تو پاس سے گزرتے لڑکے ایسے جمدے کتے ہیں کہ شرمندگی ہوتی ہے۔

تھا کہ اس کو ختم کیا جائے اسلام میں ایک اہم بات اجتہاد ہے جس کی رو سے موجودہ وقت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔

عائشہ حبیب: مجھے بہت شوق ہے کہ میں آئی ٹی پڑھوں مگر مجھے شہر سے باہر جانے کیا جازت نہیں مل رہی۔

اس کے بعد موجودہ امریکہ افغان جنگ میں پاکستان کے کردار پر بات ہوئی تو شریک کاروں نے جذباتی انداز میں سرکار کے فیصلے پر تنقید کی اور کچھ اس طرح کے بیانات سامنے آئے۔

سائرہ رشید: ساتویں جماعت کی طالبہ..... مجھے سارے گھر کا کام کرنا پڑتا ہے سکول سے آکر لڑکیاں گھر کے کام کرتی ہیں جبکہ لڑکے باہر کھیلنے چلے جاتے ہیں۔ لڑکیوں کو گھر میں قید کیوں رکھا جاتا ہے؟ گھر کا کام کرو، برتن دھو، صفائی کرو، سکول کا کام کرو، ٹیوشن پڑھو اور لڑکوں کو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا۔

☆ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے۔

☆ جہاد مسلمانوں پر فرض ہے۔

☆ حکومت نے بڑی بڑی کام مظاہرہ کیا ہے۔

☆ پاکستان اسلام کی حفاظت کر سکتا ہے۔

☆ یہ یہودیوں کی سازش ہے۔

☆ یہودی مسلمانوں اور عیسائیوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔

سدرہ شبنم: ایک آنٹی ہیں ان کے دو خاندان فوت ہو گئے ہیں اب وہ تیسری شادی نہیں کر سکتیں کیونکہ لوگ باتیں کرتے ہیں حالانکہ ان کے بچے بھی چھوٹے ہیں اور ان کو شادی کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں عورت کے ساتھ بہت زیادتی ہے۔

تصفیر انور: میں ایک صاحب کو جانتی ہوں جن کی دو بیویاں فوت ہو گئیں تھیں اور ان کے نو بچے تھے مگر انہوں نے تیسری شادی کر لی تھی۔ عورت اگر بیس سال کی عمر میں بھی بیوہ ہو جائے اور اس کا ایک بچہ ہو تو سب اس کو کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے دوسری شادی کی، بیٹا ہے ناس اسکو کیا ضرورت ہے شادی کی۔

اس پر گرما گرم بحث ہوئی صرف ارم اقبال اس حق میں تھی کہ سرکار نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے مگر باقی لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے کچھ خاموش تماشائی تھے۔

آخر کار سہولت کار نے اس بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ اسلام امن کا پیغام لایا تھا جنگ کا نہیں جہاد بعد میں آتا ہے پہلے اپنے ملک کی صورت حال کا جائزہ لیں کہ ہمارے ہاں کتنے بچے تعلیم سے محروم ہیں کتنے لوگ ہیں جن کو علاج کی سہولت نہیں اور وہ بیماری کے عالم میں سکس سکس کر مرتے ہیں کتنے بچے چھوٹی عمر میں کام کرتے ہیں اور زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں کیا اس کی ضرورت نہیں کہ ہم ان مسائل پر پہلے کام کریں اور جہاد کو دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھیں جن ادوار کی آپ لوگ مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے جہاد کیا تھا تو حضرت عمر کہتے تھے کہ اگر میرے ددر حکومت میں ایک کتا بھی دریائے فرات کے کنارے بھوکا مرے گا تو میری کوتاہی ہوگی۔ کبھی ہم لوگ اس مثال کو بھی دیکھیں پھر ان کی جہاد کی بات پر غور کریں۔

گروپ ڈسکشن میں بار بار اسلام کا حوالہ دیا گیا کہ اسلام نے عورتوں کے لیے حدود مقرر کی ہیں جس پر گروپ میں خاموشی چھا جاتی ہے اور ایک خطرناک موڑ آجاتا، جس پر کوئی بات کرنا یا سننا پسند نہیں کرتا۔ لہذا برگد کے نمائندے نے پوچھا کہ کتنی لڑکیاں اسلام کے بارے میں جانتی ہیں یا کتنی لڑکیوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے جس کے جواب میں صرف ایک لڑکی نے کہا کہ میں نے با ترجمہ قرآن پڑھا ہے۔ باقی سب لڑکیاں سنی سنائی باتوں پر خود پر پابندیاں لگا رہی تھیں اور جس خاتون نے ترجمہ پڑھا ہے اس نے بھی لفظی ترجمہ ایک مدرسے سے پڑھا ہے۔

سہولت کار نے بتایا کہ قرآن کی تشریح مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں کی ہے اور سنی شیعہ جھگڑا بھی اسی بنا پر ہے کہ تفسیر اور تشریح مختلف ہے اس کے علاوہ آج تک کسی خاتون نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا اور اس بات کو سب گروپ نے تسلیم کیا کہ ترجمہ کرتے ہوئے ترجمان کی اپنی سوچ اور پسندنا پسند کا دخل ضرور ہوتا ہے لہذا مذہب کی طرف سے عائد پابندیوں کو عورتوں کو خود دیکھنا ہوگا کہ اس میں کتنی صداقت ہے۔ اس کے علاوہ نکاح نامہ پر بحث ہوئی اور کسی غیر شادی شدہ لڑکی نے نکاح نامہ نہیں پڑھا تھا۔

اس کے علاوہ جو لوگ افغانستان کے جہاد کی مثال پیش کرتے ہیں وہ ان افغانی بچوں کو ضرور دیکھیں جو پاکستان کی سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں اور کاغذ اٹھاتے ہیں اور گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں ان کے پیروں میں جوتا نہیں ہوتا اسلام آباد جی نائن مرکز اور کراچی کمپنی میں جو افغانی عورتیں جسم فروشی پر مجبور ہیں ان کا کاروبار کوئی اور نہیں ان کے اپنے باپ اور بھائی پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے کرتے ہیں تو ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر جہاد کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں بھوک، افلاس، ننگے پاؤں یا سکول کی عمارت اور کھیلنے کے لیے کھلونے۔

ایک شریک کار نے اعتراض کیا کہ چونکہ اسلام مکمل ہو چکا ہے اب اس پر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی تو سہولت کار نے مختصر امت کے تصور پر بات کی کہ متہ کیا ہے اور اس پر بعد میں یہ فیصلہ ہوا

چیٹ @ برگد

محمد مشتاق، انسان فاؤنڈیشن، لاہور کے ڈائریکٹر ہیں۔ انھوں نے گورنمنٹ کالج، لاہور سے ایم اے فلسفہ کی ڈگری حاصل کی۔ گذشتہ دس سالوں سے انسان فاؤنڈیشن میں بطور ڈائریکٹر کام کر رہے ہیں۔

محمد مشتاق: کیا صرف تعلیمی نظام بدلنے سے یہ تبدیلی آجائے گی؟

برگد: نہیں.. پورا معاشرتی، سیاسی اور معاشی نظام بدلیں گے۔

ہمارے معاشرے میں رائج قدروں، اور ان میں تبدیلی کی ضرورت کے حوالے سے مزید برآں جمہوری اور ترقی پسند اقدار کی ترویج کیوں ضروری ہے اور ان میں عورتوں کے کردار پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔

محمد مشتاق: کیا مرد اس تبدیلی کو قبول کر لیں گے؟

محمد مشتاق: کرنا پڑے گا... عورت نے بھی تو قبول کیا ہوا ہے اس طرح مرد بھی کریں گے۔

برگد: موجودہ ایشیائی ممالک میں عورتوں کی نمائندگی %33 ہے عورتیں سیاست میں آئی ہیں مگر خیال کیا جاتا ہے کہ ان کو معلومات، شعور بڑھانے اور تربیت کی ضرورت ہے پھر وہ کام کر سکتی ہیں۔

برگد: کیا ہمارے گھروں میں، اداروں میں اور ہمارے نظام میں جمہوری رویہ ہے؟

محمد مشتاق: میرا خیال ہے کہ عورتیں جو کر رہی ہیں بالکل ٹھیک کر رہی ہیں۔ کرنا زیادہ ہم مردوں کو چاہیے کہ تھوڑی سی حیا کریں عقل کریں یہ ایک عمل ہے تبدیلی کا، عورتیں وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی اپنا سٹیٹس تبدیل کر لیں گی۔

محمد مشتاق: ہے تو سہی اس سے کچھ نہ کچھ قدریں تو ہوتی ہیں۔ انسان تو جمہوری رویہ چاہتے ہیں مگر ریاست، میڈیا اور ہمارا نظام تعلیم نہیں چاہتا لیکن لوگ چاہتے ہیں۔

برگد: پوری طرح سے جمہوری رویہ رائج کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے

برگد: غیر سرکاری تنظیمیں منتخب خواتین کونسلز کی ترقی پر دو گرام کر رہی ہیں کیا اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟

محمد مشتاق: اس میں سب سے اہم کردار ریاست کا ہے کیونکہ ریاست کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ ہمارے جاگیردار روئے اس لیے ہیں کہ ریاست کو جاگیردار تحفظ دیتا ہے اور ریاست اس کو تحفظ دیتی ہے۔ جب ریاست چاہے گی تو جمہوری رویے آجائیں گے اور جاگیردار بھاگ جائے گا اور جب جاگیردار مرے گا تو سیاسی ڈھانچہ بدل جائے گا اور معیشت بدلے گی جمہوریت آئے گی تو عورت آزاد ہوگی۔

محمد مشتاق: غیر سرکاری تنظیمیں پہلے اپنی تربیت کریں اس کے بعد عورتوں کی کریں۔ یہ غیر سرکاری تنظیموں کے بس کا رنگ نہیں۔ اس کے لیے پورا تعلیمی نظام بدنا پڑے گا دنیا نوس چیزیں نکال کر ترقی پسند خیالات پر مشتمل تعلیمی نظام لانا پڑے گا۔

برگد: اگر ریاست ایسا نہیں چاہتی مگر لوگ چاہتے ہیں تو پھر لوگوں کو کیا کرنا ہوگا۔

برگد: لیکن جب بھی ترقی پسند اقدار کی بات ہوتی ہے تو شدید مخالفت سامنے آتی ہے۔

محمد مشتاق: پھر یہ ایک لمبا عمل ہو جائے گا لوگوں کی جدوجہد پر مشتمل عمل تو ویسے بھی لمبا ہوتا ہے اور پھر ہمارے لوگ جو شکر بہت کرتے ہیں۔ اللہ نے جو دے دیا شکر ہے تو ایسے معاشرے میں تبدیلی بہت آہستہ آتی ہے۔

محمد مشتاق: دیکھیں جی... ریاست بڑی طاقتور ہوتی ہے وہ اگر چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ریاست ترقی اور عورتوں کو باشعور بنانے کے لیے الیکٹرانک میڈیا استعمال کرے تو بہت جلد عورتوں کو دنیا نویت سے باہر نکالا جاسکتا ہے لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ ریاست تیار ہوتی ہے یا نہیں کیونکہ اگر ایک دفعہ عورت طاقتور ہوگئی تو بہت کچھ بدلے گا جو ریاست اور مردوں کو گوارا نہیں ہے۔

برگد: اگر حکومت کو اس عمل پر مجبور کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟

محمد مشتاق: حکومت کو نہیں ریاست کو، حکومت تو کمزور چیز ہے کبھی نواز شریف کے پاس تو کبھی بینظیر کے پاس اصل طاقت تو ان لوگوں کے پاس ہے جو ان کو لاتے اور لے جاتے ہیں ریاست کی مشینری جو اصل طاقت ہے۔

برگد: ہمارے معاشرے میں برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا

برگد: ہمارے ہاں راتج قدروں پر آپ کیا تبصرہ کریں گے

محمد مشتاق: نہیں جی ہمارے ہاں تو بہت برداشت ہے۔ جتنے مرضی بل بڑھا دو برداشت کر جاتے ہیں کوئی آکر جو تیاں مار جائے، کوئی ہماری بہن بیٹی کو کچھ کہہ دے، ہم کہتے ہیں کہ کسی سے بات نہ کرو۔ اور کتنا برداشت کریں۔

محمد مشتاق: معاشرے میں جو بہت نمایاں رائج قدر ہے وہ تو منافقت ہے۔ یہی ہمارے پاس ایک قدر ہے جس میں سے ہمیں کوئی راستہ نکالنا ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ فوراً رائج قدریں چھوڑ دیں جائیں اور نئی اپنالی جائیں۔ یہ تبدیلی آہستہ آہستہ ہوگی۔

برگد: ہاں لیکن اس معاشرے میں عیسائیوں کو معمولی باتوں پر تو بہن رسالت کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے

برگد: پرانی رائج اقدار کو چھوڑ کر جمہوری اور ترقی پسند اقدار اپنانے سے معاشرے میں کیا بہتری آئے گی۔

محمد مشتاق: اس دنیا میں مختلف کاروبار ہیں، پتیلی کا کاروبار ہے وہ کہتے ہیں دل پاکستان، پتیلی پتیلی پاکستان اور پتیلی بیچتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ اسی طرح مذہب کا دھندہ ہے، ہندوستان میں ہندو دھندہ کر رہا ہے، کچھ ممالک میں عیسائی دھندہ کر رہا ہے ہمارے ملک میں مسلمان مذہب کو بیچ رہے ہیں ان کا منافع اسی میں ہیاس سے ان کی روٹی روزی چلتی ہے وہ اسلام کو ایک پرتشدد مذہب بنا کر پیش کریں اور جو ان کے ہتھے چڑھے اس کو مار دیں۔ اس مہنگائی کے دور میں ان بیچاروں کا روٹی روزی کے لیے دھندہ ہے۔

محمد مشتاق: جب ہم منافقت کو چھوڑیں گے تو ہمیں چیزوں کی اصلیت کو ماننا پڑے گا۔ حقیقت تھوڑی سی تلخ ہوتی ہے لیکن اس کو ماننا پڑے گا۔ ہمیں اپنی تاریخ کو دیکھنا پڑے گا اس کو دیکھتے ہوئے تکلیف ضرور ہوگی مگر سچائیوں کے ساتھ زندہ رہنا پڑے گا یہ سائنسک اپروچ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ہندوستان میں پنڈت کی بودی اور یہاں مولوی کی داڑھی لٹیشی ہے یہ دونوں کاٹ دی جائیں تو معاشرے میں سکون آجائے گا۔

برگد: ترقی پسند قدر کو آپ کیسے بیان کریں گے

برگد: ہمارے لوگ ایسی باتوں پر خاموش کیوں رہتے ہیں

محمد مشتاق: جو خاموش رہتے ہیں پھر ان کو مزہ بھی ملتی ہے جب مولوی ساتھ والی گلی میں بد معاشی کرتا ہے تو اس کو روکا نہیں جاتا تو اس کا اگلا نشانہ آپ کی گلی بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر مردے نہیں اٹھتے قبرستانوں سے کوئی نہیں اٹھتا۔ وہیں سے لوگ بولتے ہیں جہاں اٹھنے کی ہمت ہوتی ہے یہاں پچاس سانوں میں ہونوں کی دھک نے لوگوں کے دلوں کو دبلا دیا ہے اس لیے کوئی اٹھنے کو تیار نہیں۔

محمد مشتاق: جہاں سے دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے اس سے پہلے تک مجھے آزادی ہونی چاہیے اور جہاں میرا ناک شروع ہوتا ہے اس سے دور دور باقی سب کو آزادی ہے اور ناک کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے کہ دوسرے تنگ نہ ہوں اور ترقی پسند اقدار کو اپنانے کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں۔

برگد: مگر لوگوں کو اٹھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔

برگد: ترقی پسند اقدار کی ترویج کے لیے کیا کرنا چاہیے

محمد مشتاق: نوجوانوں سے کہیں، گٹار بجائیں، محبت کریں، میوزک بجائیں، پھولوں کی خوشبو محسوس کریں۔ جب محبت پھیلے گی تو خود ہی جمہوری رویہ اور جمہوریت آئے گی نوجوان گٹار پکڑ لیں تو مولوی خود ہی مر جائے گا۔

محمد مشتاق: ہمیں تلوار اور بندوق کے خوبصورت کلنڈر چھاپنے کی بجائے گٹار والے کلنڈر چھاپنے چاہیے اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہونی چاہیے نہ کہ بندوق

ملک میں جمہوری اور ترقی پسند اقدار کی ترویج کی اشد ضرورت ہے ہم عیسائی بھی اس ملک کے باشندے ہیں اور ہمارا بھی اس ملک پر اتنا ہی حق ہے جتنا اکثریت کا مگر عملی طور پر ایسا نہیں ہے ہمیں وقتاً فوقتاً یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم اقلیت ہیں اس کی مثالیں سماجی سطح پر بھی ملتی ہیں اور نوکریوں میں بھی ملتی ہیں۔ میں نے سرکاری نوکری اسی بنا پر چھوڑ دی تھی کہ میرے ساتھ امتیازی سلوک ہوا۔ ایک اقلیتی باشندے کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے جس پر اکثریتی باشندہ ہے چار گنا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے یہ ایک فرق ہے۔ عیسائی مسلم شادیوں کی صورت میں اگر لڑکی عیسائی اور لڑکا مسلمان ہو تو کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوتا اور قانون بھی ان کی مدد کرتا ہے مگر لڑکا عیسائی ہو اور لڑکی مسلمان ہو تو نہ صرف اس لڑکے کو مار دیا جاتا ہے بلکہ اس کے پورے خاندان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک عیسائی لڑکا ذیشان اور ایک مسلمان لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں باوجود اس کے کہ لڑکا اسلام قبول کر لے پھر بھی اس لڑکی کے خاندان والے اس کو دھمکیاں دیتے ہیں اور اپنے خاندان کی حفاظت کے خیال سے وہ لڑکا اس لڑکی سے شادی نہیں کر رہا۔

اس کے علاوہ تو بین رسالت کے نام پر ہمیشہ ذاتی دشمنیاں اور ذاتی انتقام لئے جاتے ہیں اگر کسی عیسائی کے ساتھ زمین کا جھگڑا ہے تو اس پر تو بین رسالت کا مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے۔

میرے خیال میں ہمیں اپنے لوگوں کو تعلیم، شعور و آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ اقلیتیں اس ملک کا حصہ ہیں اور ہم سب میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش اسلوبی سے برداشت کریں۔ کسی باشندے کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یہی جمہوری اور ترقی پسند رویہ ہے۔

جوزف مسیح، اوپرنگ، مری میں میجر کے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ اوپرنگ گرجا گھر کی ملکیت ہے اس میں ایک کانفرنس روم ہے جہاں پر مختلف غیر سرکاری تنظیمیں اپنے تربیتی پروگرام منعقد کرواتی ہیں اس کے علاوہ گرمیوں میں پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے عیسائی مشنری یہاں آ کر رہتے ہیں۔

ملک میں موجودہ جمہوری تبدیلیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جوزف نے کہا... یہ ایک اچھی تبدیلی ہے کہ عورتوں کو لوکل باڈیز میں 33% نمائندگی دی جا رہی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں نہ تو عورت کو پورے حقوق ملتے ہیں اور نہ ہی اس کی گواہی پوری تسلیم کی جاتی ہے وہاں پر اس قسم کا قدم بڑا خوش آئند ہے۔ ہمارے ماحول کی وجہ سے ابھی بہت سے لوگ اپنی عورتوں کو سیاست میں نہیں آنے دے رہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے لڑکیاں ڈاکٹر، انجینیر یا سول سروس میں آ رہی ہیں اسی طرح سیاست میں آنا شروع کر دیں گی۔ سرکار جو نظام متعارف کروا رہی ہے اس قسم کا نظام فرانس میں رائج ہے۔ جمہوری اور ترقی پسند اقدار کی جانب یہ پہلا قدم ہے مگر اس میں عیسائیوں کے ساتھ تھوڑا سا امتیازی سلوک کیا گیا ہے کہ ان کو ایک ہی سیٹ دی گئی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک عورت کی اور ایک مرد کی سیٹ ہوتی مگر اقلیتی ایک ہی سیٹ ہے۔ اس کے علاوہ نیا نظام متعارف کروانے کی اچھی کوشش ضرور ہے مگر یوں لگتا ہے کہ سرکار کو خود بھی نہیں پتہ کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے کہ ایکشن سے ایک دن پہلے ایک سرکلر جاری ہوا کہ ناظم اور نائب ناظم کو اقلیت بھی ووٹ ڈالے گی اس کا نقصان یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں تک یہ بات نہ پہنچ پائی اور وہ اپنا ووٹ نہ ڈال سکے اور اگر یہ سرکلر پہلے جاری ہوتا تو ایکشن پر کھڑے لوگ عیسائیوں کے پاس بھی ووٹ لینے آتے اور عیسائی بھی ان کے سامنے اپنے مطالبات یا شرائط رکھ سکتے تھے۔

موجودہ صورتحال پر طالب علموں کی رائے

افغانوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔

سلمی محمود: پی۔ یو (ایم فل، شعبہ اسلامیات) پاکستان کا موقف غلط ہے افغانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ہر مقصد کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اس وقت پاکستان کو افغانوں کی پشت پر ہونا چاہیے تھا مگر ہم ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے پاکستان امریکہ سے ٹکر نہیں لے سکتا لیکن اگر ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہو تو ہم امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں۔ امریکہ کھلی دہشت گردی کر رہا ہے۔

رابعہ بٹ: پی۔ یو (شعبہ شماریات) افغانوں نے ہمیشہ ہمیں تباہ کیا ہے ہمارے ملک میں اسلحہ اور نشہ لے کر آنے ہیں۔ مگر امریکہ اب صلیبی جنگ کر رہا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے لیکن یوں لگتا کہ ہمارے حکمرانوں پر بھی صورت حال واضح نہیں ہے۔ پاکستان امریکہ کی مدد بھی کر رہا ہے اور ان کو روک بھی رہا ہے۔

نوشین محمود: پی۔ یو ہم اپنے مسائل میں اتنے الجھ چکے ہیں کہ صورت حال سے کسی کو دلچسپی ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ تحشیت قوم اتنے خود غرض ہو چکے ہیں کہ اپنی ذات سے باہر نکلتے ہی نہیں تو ملک کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ ان جلسوں یا ریلیوں سے کچھ ہونے والا نہیں اس کے لیے باقاعدہ تحریک چلانے کی ضرورت ہے لوگوں کو شعور دینے اور ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ اندھیرے میں تیر چلا رہا ہے اس کو خود نہیں پتہ کہ جنگ کے کیا مقاصد ہیں۔ یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات بہت کچھ کر سکتے ہیں مگر ان کو ہمیشہ سیاستدان یا پھر جمعیت والے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب جمعیت کا زور ذرا کم ہو گیا ہے مگر ابھی تک ان کی بنائی ہوئی پالیسیاں چل رہی ہیں کیونکہ کوئی متبادل پالیسی دینے والا نہیں اس وقت ضرورت ہے کہ کوئی پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں طالب علم تعلیمی اور صحت مند قسم کی سرگرمیاں شروع کر سکیں۔

ف۔ ک: (شعبہ نفسیات، گورنمنٹ کالج، لاہور) مجھے سیاست سے کوئی دلچسپی

گورنمنٹ کالج، لاہور اور پنجاب یونیورسٹی کے طالب علموں کے ساتھ سروے

شمالیہ بخاری: پی۔ یو موجودہ صورت حال میں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہ تھا کہ ہم امریکہ کا ساتھ دیں ورنہ ہمارا حال بھی افغانوں جیسا ہو جائے گا۔ ریلیاں، جلسے یا جلوس اس کا حل نہیں ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کی بجائے مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے۔ ہم جذباتی سطح پر تو افغانستان کے ساتھ ہیں مگر عقلی سطح پر ہمیں امریکہ کا ساتھ دینا پڑ رہا ہے۔

سارہ امین: پی۔ یو امریکہ دہشت گردی کر رہا ہے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دھماکوں کے پیچھے اسامہ کا ہاتھ ہے مگر وہ طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے ہمارے دل، جذباتی دلبستگی اور دعائیں طالبان کے ساتھ ہیں۔

حفصہ بخاری: پی۔ یو دل افغانوں کے ساتھ ہے مگر حکومت کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔

(اس سوال پر کہ آپ لوگ طالبان کے بارے میں کیا جانتی ہو وہ تو لڑکیوں کی تعلیم اور مخلوط تعلیم کے خلاف ہیں۔ جبکہ فائن آرٹس ڈیپارٹمنٹ کا ماحول باقی یونیورسٹی سے نہ صرف مختلف ہے بلکہ ترقی پسند انداز ترویج کی بات کرتا ہے۔)

سارہ امین: پی۔ یو ہم طالبان کے بارے میں تناہی جانتے ہیں جو ہمارا میڈیا بتاتا ہے۔ ہمارے ڈیپارٹمنٹ میں، حول بہت اچھا ہے ہم اپنے ہم جماعتوں کو انسانی سطح پر لیتے ہیں لڑکا یا لڑکی نہیں، ویسے بھی ہمارے کام کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم مل جل کر کام کریں۔ لڑکوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے سے اعتماد بڑھتا ہے، یہ گندے ذہنوں کی باتیں ہیں کہ مخلوط تعلیم میں کوئی خرابی ہوتی ہے خرابی انسانوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے۔

شمر طارق، IER: پی۔ یو میں خبریں تک نہیں سنتی اس لیے مجھے حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہاں مگر جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان غلط بھی کر رہا ہے اور صحیح بھی کر رہا ہے۔ امریکہ طاقتور ہے اس لیے اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے مگر

شمالی پنجاب کی ناک

کہا کہ اس کو خواہ مخواہ موضوع بنایا جا رہا ہے اور لڑکی کا عمل غلط ہے۔ برگلد کے نمائندے کے سامنے شدید ناگواری کا اظہار کیا گیا جس میں چہرے کے تاثرات سے لے کر جسم کی حرکات اور الفاظ سب شامل تھے اور یہ الفاظ ادا کیے کہ یہ ایک غلط فہمی ہے اس پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

ایک شریک کار، پرویز دلیم سب کی موجودگی میں خاموش رہے اور سب کے جانے کے بعد برگلد کے نمائندے کے پاس آئے اور اپنے رویے پر معذرت کی اور کہا کہ میں سب کی موجودگی میں اس واقعے کی مذمت نہیں کر سکا۔ یہ میری اخلاقی کمزوری ہے، میرے اندر تبدیلی کا عمل جاری ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایک دن میں ان فضولیات سے یقیناً باہر آ جاؤں گا۔

مردوں کا موقف تھا کہ اس پر م کو خاموش رہنا چاہیے تھا اور اپنے خاوند سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اب بھی م کو اس بات کو ختم کرنا چاہیے۔

ایک شریک کار نے کہا کہ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا جبکہ ایک تنظیم کے ڈائریکٹر جو مستقبل میں سیاسی شعور بڑھانے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، نے سب سے زیادہ اس پر ناگواری کا اظہار کیا۔

اس لڑکی کے شوہر نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک ساتھی کے ساتھ اکیلے روانہ کر دیا تھا مگر وہ ساتھی مجھے اس کے ساتھ برداشت نہیں کر سکا اور اگر یہ شخص ایک ساتھی کے لیے اس قدر شدت کا مظاہرہ کر سکتا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک روار کھے گا۔

غیر سرکاری تنظیموں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کس دھوکے میں ہیں وہ خود کو تبدیلی کا نمائندہ سمجھتے سمجھتے کہیں اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں کیا ان کے ساتھ کام کرنے والے ترقی اور تبدیلی کے حامی لوگ اپنی روح کی گہرائیوں سے ہیں یا پھر یہ کام صرف زبانی سطح پر ہو رہا ہے۔

مرد اپنے ساتھ کام کرنے والی عورتوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور اگر کوئی ساتھی عورت اپنی مرضی سے کام کرتی ہے تو ان کی عزت خراب ہوتی ہے۔ گھر میں عورت باپ، بھائی اور شوہر کی عزت اور دفتر میں کوئی عزت۔۔۔ کیا مردوں کے پاس اپنی کوئی عزت نہیں۔۔۔ جو وہ اپنی عزت بڑھانے یا گھٹانے کے لیے عورتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اپنی بہن کا نام لینے والے کو قتل کر دیتے ہیں اور دوسروں کی بہنوں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔

غیر سرکاری تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ وہ اس ملک میں ایک معاشرتی تبدیلی لائیں گے۔ وہ اس ملک میں اس طبقے کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں جو اپنے حقوق سے محروم ہے اور ان میں عورتیں سرفہرست ہیں۔

ایک غیر سرکاری تنظیم ایک سالانہ پروگرام کے تحت پنجاب کی غیر سرکاری تنظیموں کے تربیتی پروگرام کر رہی تھی ایک سال میں چار تربیتی پروگرام منعقد ہوئے جن میں اس عہد کا اعادہ کیا گیا کہ ہم سب مل کر ریاستی سطح پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ تبدیلی کے اس عمل میں ہمارا ساتھ دیں۔ آخری ورکشاپ کے دوران ایک خاتون (م) جس کا چند ماہ پہلے نکاح ہوا تھا وہ اس ورکشاپ میں اپنے ایک تنظیمی ساتھی ک کے ساتھ شریک ہوئی، م نے بتایا کہ اس کا خاوند اس کو خود بس سٹاپ پر چھوڑنے آیا تھا اور اس کے ساتھی ک کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ ورکشاپ کے تیسرے دن م نے بتایا کہ اس کا خاوند اس کو ملنے آ رہا ہے جس پر ان کا تڑپنے کا کچھ وقت کا اظہار کیا اور اس کی آمد پر نہ صرف ان دونوں کو مبارک باد کا کارڈ دیا بلکہ لڑکی کو کچھ وقت کے لیے ورکشاپ سے غیر حاضری کی اجازت بھی دے دی کیونکہ ورکشاپ کا شیڈول بہت سخت ہوتا ہے اور عموماً دو راتیں پورے دن کے علاوہ رات کے بیشتر وقت پر مشتمل ہوتا ہے۔

رات کو وہ دونوں میاں بیوی ایک کمرے میں رہے۔ جس پر ورکشاپ کے تمام مردوں نے چند ایک کو چھوڑ کر اس پر نہ صرف مزاحیہ انداز میں تبصرہ کیا بلکہ اسی تنظیم سے آئے ہوئے دوسرے ساتھی ک کو کہا کہ تمہاری ساتھی خاتون کیا کر رہی ہے۔ اگلے دن م کے پاس ک گیا اور کہا کہ تم اپنی رخصتی کا اعلان کر دو سب لوگ اس پر باتیں کر رہے ہیں اور تم نے سارے شمالی پنجاب کی ناک کو ادا دی ہے تم نے شمالی پنجاب کا نام ڈبو دیا ہے۔ م نے اپنے شوہر سے بات کی اس کے شوہر نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہو کوئی ضرورت نہیں ایسی ملازمت کی تم نوکری چھوڑ دو م نے شدید پریشانی کے عالم میں رونا شروع کر دیا۔ م نے ورکشاپ کے منتظمین سے بات کی تو انہوں نے ک پر خاصا دباؤ ڈالا کہ تم م سے معافی مانگو۔۔۔ ک بعد تھا کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ خاصے دباؤ کے بعد ک نے م سے معافی مانگ لی جو صرف ایک کاروائی تھی۔ برگلد کے نمائندے نے وہاں پر موجود سب لوگوں سے بات کی اور ان کے تاثرات معلوم کرنے کی کوشش کی۔

نورمانیم، جن کا تعلق ساہی، سیالکوٹ، سے ہے انہوں نے کہا۔ یہ بیمار ذہنیت کی عکاسی ہے۔

باقی تمام مردوں نے جن کا تعلق مختلف غیر سرکاری تنظیموں سے اور وہ اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اس معاشرے میں تبدیلی لاکر رہیں گے، انہوں نے کھل کر اس مرد کی حماقت کی اور

ہوگا۔ 1963 میں سبز انقلاب کی مثال ہمارے سامنے ہے جس نے ہمیں صرف نقصان پہنچایا ہے۔ کچھ لوگوں نے ہمیں آکر بتایا کہ آپ یہ بیج استعمال کریں تو آپ 50 من ایکڑ کی بجائے 120 من ایکڑ گندم حاصل کریں گے اور وہ بیج استعمال کرنے سے ایسا ہوا، پھر کچھ عرصے بعد اس زمین پر جراثیم نے حملہ کیا اسی ملک نے کہا کہ اب فلاں فلاں دوائی استعمال کریں اس طرح ہمیں دوائی بھی ان سے مل گئی، پھر بیج کمزور ہو گیا تو ہدایت آئی کہ ان کو پانی زیادہ دیں، پانی زیادہ دیا گیا تو پانی کھیتوں میں کھڑا رہتا تھا اس کی نکاسی کا کوئی انتظام نہ تھا اور اس طرح وہ زمین سیم و تھور کا شکار ہو گئی، پیداوار بھی کم ہو گئی اور زمین بھی بخر ہو گئی۔ اس کے بعد صل کے طور پر یوریا متعارف ہوا جس کی وجہ سے خوراک زہریلی ہو گئی ہم اور ہمارے جانور زہریلی خوراک کھانے سے نئی نئی بیماریوں کا شکار ہو گئے۔

1985 میں 120 من گندم فی ایکڑ دینے والی زمین صرف 30 من گندم فی ایکڑ پر آگئی اور اب ہم 17 من گندم فی ایکڑ حاصل کر رہے ہیں۔ 30 سالوں میں زراعت تباہ ہو گئی ہم اس ملک کے محتاج ہو گئے کسان جو مالک تھا قرض دار ہو گیا، اب ایک کھیت پر ہزار روپیہ لگاتا ہے اور سات سو حاصل کرتا ہے۔

دوسری پالیسی یہ ہے کہ پچھلے 53 سالوں میں کسان، مزدور، طالب علم یا عام شہری کے لیے بنائے گئے کسی منصوبے میں کسان، مزدور، دیہاتی یہ عام شہری کو کبھی شامل نہیں کیا گیا منصوبہ سازوں نے لوگ ہیں جو ان مسائل کے اندر رہنا تو دور کی بات اس ملک میں نہیں رہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہم آکسفورڈ، کیمبرج سے پڑھ کر آئے ہیں ہم بہتر منصوبہ سازی کر سکتے ہیں ان دیہاتی ان پڑھ لوگوں کو منصوبہ سازی میں شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے نقصان کیا ہوا ہے کوئی کام پایہ تکمیل کو پہنچا ہے اور نہ کام میں یا سیداری آئی ہے کیونکہ کوئی منصوبہ بھی لوگوں کے مسائل اور ضروریات کو مد نظر رکھ کر نہیں بنایا گیا۔

تھر پارٹر میں ایک پراجیکٹ کیا گیا اور پورے علاقے میں لیٹرینیں بنادی گئیں یہ جانے بغیر کہ اس علاقے میں پانی کی قلت ہے اور ڈیزائن کی ہوئی لیٹرینوں کے لیے کھلا پانی چاہیے۔ ہمارے چلنے والے، سکول، ہسپتال اور صنعتیں 80 فیصد ناکام ہیں

برگد کے دفتر میں خواتین کے سیمینار میں گفتگو کرتے ہوئے جناب عرفان مفتی نے کہا۔۔۔۔۔

ہمارے سکولوں اور درسی کتابوں میں جو علم دیا جاتا ہے وہ عمومی معلومات فراہم کرتا ہے یعنی اس ملک کی آبادی کتنی ہے اس میں کیا کیا معدنیات پائی جاتی ہیں یا اس کا حدود اربعہ کتنا ہے۔ ہمارے پاس اصل علم آتا ہی نہیں جو ہماری ضرورت ہے، یعنی اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے اس ملک میں کتنے لوگوں کے پاس تعلیم، صحت کی سہولت، اور روزگار ہے۔ کتنے بچوں کو سکول میسر ہے، ملک کے خراب حالات کی کیا وجوہات ہیں، ہمارے ملک میں پونے چار کروڑ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو صرف قرآن پڑھنا جانتے ہیں، نوے لاکھ بچے سکول کی بجائے جبری مشقت کرتے ہیں جو ان کی ذہنی نشوونما کے لیے نقصان دہ ہے۔ 67% یعنی سو آٹھ کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، 1000 میں سے 113 بچے پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں اور 109 بچے پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں۔ بلوچستان چلے جائیں آپ کو میلوں تک کوئی سڑک، سکول یا ہسپتال نہیں ملے گا۔ کسان کو بنیادی سہولیات تو دور کی بات خوراک بھی نہیں ملتی 40 فیصد یعنی سو پانچ کروڑ لوگوں کو بنیادی غذا تک نہیں ملتی۔ کیا ہماری درسی کتابیں اور سکول، کالج ہمیں یہ علم دیتے ہیں۔

کا شکار زمین پر کام کرتا ہے مگر زمین کا مالک نہیں رہا۔ ہمارا کسان زمین سے واقف تھا وہ جانتا تھا کہ زمین کو کب پانی دینا ہے بیج ڈالنا ہے

اور اس کو کب کاٹنا ہے، ہماری زمین آدھی دنیا کو اناج فراہم کرتی تھی آج ہم

امریکہ اور چین سے گندم منگواتے ہیں۔ 93 فیصد

کسان پانچ ایکڑ سے کم کے مالک ہیں۔ ہم جو دنیا پر

حکمرانی کرتے تھے اب قرضے کے بوجھ تلے دب

گئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کوئی نہ کوئی غلط فیصلے ہوئے ہیں وہ معاشی

فیصلے ہیں یا سیاسی، ہمیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم آج نہیں کریں گے تو کل کچھ نہیں



کیونکہ لوگوں میں کام کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔

ہمارے ہاں دیہات ایک خود مختار اکائی تھا جہاں پر فیصلے پرے، پنچائت میں ہوتے تھے نہ کہ لاہور ہائی کورٹ میں۔

حقوق سے آگاہ کرے جو ہمیں باختیار کرے۔ یہ فوراً نہیں ہو سکتا اس پر وقت لگے گا، جب تک عورت ایوانوں میں نہیں جائے گی اس کے حق کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا۔ عورت جو تخلیق کار ہے جو فن کو محبت کرنے والی جو منظم کرنا جانتی ہے جو بے تحاشا صلاحیتوں کی مالک ہے اس کو ہم نے دوسرے درجے کی شہری بنا رکھا ہے ہمیں اس نظام کو بدلنا ہوگا۔

ہمارے مسائل کا حل متبادل علم ہے اور متبادل علم ہم منظم ہو کر سیکھ سکتے ہیں۔

ایک تو یہ طریقہ ہے جو برگد نے اپنایا ہے لوگوں کو جمع کر کے متبادل علم دیں اور سوال کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہمارے ملک میں 170 عرب روپیہ سالانہ ڈیفنس پر خرچ ہوتا ہے کیا ہم نے کبھی سوال کیا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کل پیسوں کا 40 فیصد ڈیفنس پر اور 42 فیصد ہم قرض اتارنے پر لگا دیتے ہیں کہ عام آدمی کو اس کی خبر ہے۔

مرکزیت کے تصور نے ہم سے ہمارا اختیار چھین لیا ہے۔ جب ہمارے پاس علم نہیں، معلومات نہیں تو عمل میں بھی ہماری شمولیت نہیں، تو کام کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسے بنے اور بغیر تعلق یا رشتے کے ملکیت کا تصور نہیں بنتا اور اسی طرح ہم ترقی کے عمل میں شامل نہیں ہوتے۔ لوگوں کی شمولیت کے بغیر جو نظام بنتا ہے اور مسلط کیا جاتا ہے، جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ میری یا آپ کی زبان نہیں ہوتی۔ ایک رپورٹ شائع ہوئی کہ ہمارے ملک میں کھیتوں میں 179 عورتیں کام کرتی ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے کھیت میں مردوں سے زیادہ عورتیں نظر آتی ہیں۔

میں برگد کو مبارک باد دیتا ہوں کہ یہ لوگ ایک چھوٹے علاقے میں لوگوں کو منظم کر رہے ہیں اور متبادل علم دینے میں مصروف ہیں۔

یہ درست ہے کہ ہمیں کنٹرول علم ملتا ہے وہ خواہ سکول سے ملے، مسجد سے ملے یا کہیں اور سے، ہمیں متبادل علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو ہم ڈائلاگ، فورم تھیٹری کی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں ہمیں اپنی حدود کو توڑنا ہوگا اور لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہوگا تاکہ ہم صحیح علم حاصل کر سکیں۔

ہماری اسمبلیوں میں کسان، مزدور یا عورت کے حقوق پر بات نہیں ہوتی کیونکہ ان کا کوئی نمائندہ وہاں نہیں ہوتا۔ ملک کی 52 فیصد آبادی عورت ہے مگر اسکی گواہی آدھی مانی جاتی ہے اور سینٹ میں اس کے حق میں بات نہیں ہو سکتی۔ جن کے نمائندے سینٹ یا اسمبلیوں میں ہوتے ہیں تبدیلی یا ترقی بھی ان کی ہی ہوتی ہے سب سے پہلے ترقیاتی کام اسلام آباد میں ہوتا ہے اور اس کے بعد لاہور میں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک اچھا ملک ہے جو اسلام آباد سے صرف ڈیڑھ کلومیٹر دور ہے، اسی طرح لاہور سے باہر پاکستان ختم ہو جاتا ہے عام شہری بے اختیار اور محکوم ہے پاکستان کا ہر شہری 74000 روپے کا مقروض ہے اور ہم سود قسطوں میں ادا کر رہے ہیں۔ لوگوں کو منظم ہو کر اپنے اپنے علاقوں کی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہر نظام نے عورتوں کو نظر انداز کیا ہے۔ ہمیں کبھی مذہب، ذات برادری، قوم، اور کبھی مرد عورت کی تقسیم میں ڈال کر اس محکوم کرنے الے نظام کو چلایا جا رہا ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام ثابت کرتا ہے کہ مسلمان اچھا ہے اور غیر مسلم برا ہے ہمارا یقین بن گیا ہے کہ عورت مرد کے برابر کام نہیں کر سکتی۔ ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے جو علم حاصل کیا، جو سنا قبول کیا اور اس کو اپنے عمل میں لے آئے۔ ہمیں اس سوچ کو ختم کرنا اور حاکم محکوم کے رشتے کو بدلنا ہے میری آزادی آپ کی آزادی کے ساتھ مشروط ہے آپ آزاد ہوں گے تو میں آزاد ہوں گا۔ ہمیں اس علم کو بھولنا ہے ہمیں محمود غزنوی کے سترہ حملوں.. آبا آبا.. والے علم سے باہر نکلنا ہے ہمیں وہ علم سیکھنا ہے جو ہمیں ہمارے

علم حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں جن میں سے ایک مشاہدہ ہے پھر قدرت کے ساتھ بہتر رشتہ ہے، ہم نے خود کو قدرت سے الگ کر لیا ہے، لوگوں سے الگ کر لیا ہے خاص طور پر اربن مڈل کلاس خود کو نہ اوپر والوں کے ساتھ جوڑتی ہے اور نہ ہی نیچے والوں کے ساتھ، ہمارے پاس نوائے وقت کا علم ہے جو علم تو دور کی بات معلومات بھی نہیں اس کا صرف نقصان ہے کوئی فائدہ نہیں۔

اس ملک میں دو چیزوں نے سوچ بنائی ہے مذہب اور اقدار نے، اب اگر میں بھی ان دو چیزوں پر بات کروں گا تو آپ کہیں گے کہ میں بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہوں۔ ہمارے ملک میں 90 فیصد لوگوں کا خیال ہے کہ عورت کو تعلیم نہ دو 70 فیصد لوگوں کا خیال ہے کہ عورت کو کام نہیں کرنا چاہیے، ہمارا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم سننا نہیں چاہتے، ہم تجزیہ نہیں کرتے، ہم ایک دائرہ بنا کر چلتے ہیں ہم فیصلے سے شروع کرتے ہیں چیزوں کو مار جن نہیں دیتے ہم مذہب سے بات شروع کرتے ہیں اور مذہب پر بات ختم کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس کا توڑ ڈھونڈنا ہے۔ ہمیں متبادل علم کے لیے متبادل راستے بنانے کی ضرورت ہے یہی ہمارے پاس حل ہے۔ ہم فوری طور پر نصاب، ٹی وی چینل، ریڈیو، سب کچھ نہیں بدل سکتے مگر ہم خود کو منظم کر سکتے ہیں جیسے آج ہم گروپ

اقصی ہم جانتے ہیں کہ ہم محکوم کیوں ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ اس محکومیت سے باہر کیسے نکلیں؟

گانڈھی جی کہتے تھے کہ میری سیاست وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اگر ریگستان کے دور دراز کے علاقے کی کسی کنیا میں بیٹی عورت کی بکری بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کیسے ہونا ہے

ارم اقبال ہم کالجوں میں جو علم حاصل کرتے ہیں وہ ہم خریدتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں جو علم مل رہا ہے وہ شعوری سطح پر مفت حاصل کر رہے ہیں۔

میری فکر کا آغاز تبدیلی کا وہ عمل ہے جہاں عام آدمی کی زندگی کی بہتری اور لوگوں کے مسائل کا حل ہو۔

صاف نقہ رشید ہم سیاسی، معاشی تجزیہ کیسے کریں ہم ایک اخبار اٹھاتے ہیں اس میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے جبکہ دوسرے میں کچھ اور ٹی وی کی خبریں۔ بالکل مختلف کہانی سنارہی ہوتی ہیں، ہم تجزیہ کیسے کریں۔

عظمیٰ زریں: برگد کے دفتر کے ارد گرد بھٹہ پر عورتوں کو کام کرتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ عورتوں کو تعلیم دینے کے عمل میں ان عورتوں کو بھی شامل کرنا چاہیے ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، ہمیں کسانوں، مزدوروں اور عام لوگوں کو منظم کرنے کی ضرورت ہے ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اس کو peer education کا نام دیا جاتا ہے۔ میں نے گاؤں کی سطح پر کام کیا ہے ہم جب گاؤں جاتے تو عورتوں سے پوچھتے کہ تم زراعت میں کیا کام کرتی ہو تو وہ کہتی، کچھ نہیں... میں بس جب گندم گھرا آتی ہے تو اس کو صاف کر کے ٹھکانے لگانے کا کام کرتی ہوں۔ پہلے جب ٹریکٹر اور فصل کاٹنے والی مشینیں نہیں ہوتی تھی تو میں کھیت میں کام کرتی تھی اب میں ٹریکٹر یا مشینیں نہیں چلا سکتی، جب اس کو پوچھا کہ تم اپنے بچے کو کونسا دودھ پلاتی ہو تو اس نے کہا حلیب، جب ان ساری باتوں پر غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ جب عورت کھیت میں کام کرتی تھی تو اس کا خاندان زمین کا ایک ٹکڑا اس کے حوالے کر دیتا تھا جس میں وہ اپنی مرضی سے سبزیاں اگاتی، اور گھر میں تازہ اور کچی وافر سبزیاں ہوتی جانوروں کو سنبھالتی تو دودھ پر بھی اس کا کنٹرول ہوتا جس کی وجہ سے متوازن غذا کے تصور کو سمجھنے بغیر وہ خود اور بچوں کو متوازن خوراک مہیا کرتی تھی لیکن نیکینالوجی کے آنے سے عورت اس سے محروم ہو گئی ہے اور اب شہروں سے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو متوازن خوراک کی ترغیب دیتے ہیں مگر وہ نہیں سمجھتے کہ یہ بتانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ اس سارے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔

اعجاز احمد ہمارے لوگ سیاسی طور پر بہت لا تعلق ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ سیاست ایک بری چیز ہے، جب اچھے لوگ اس میں نہیں آئیں گے تو پھر لازماً برے لوگ ہی رہ جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان سیاسی طور پر متحرک ہوں۔ ہمیں لوگ دانش سے کام لینے کی اور اپنی نامیاتی ثقافت کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔

عظمیٰ: ہمیں گھر سے نکلنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے اگر کہیں جانا ہو تو پہلے تفصیل سے بتانا پڑتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں وہاں کیا بات چیت ہوگی تو پھر ہمیں کہیں جانے کی اجازت ملتی ہے۔ اگر گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ ہم عورتوں کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں یہاں آنے کی اجازت کبھی نہ ملے۔

سلسلی بٹ: ہمارے نصاب میں انسانی حقوق کی بات ہونی چاہیے، یہ ہی مسئلے کا بہترین حل ہے۔

عائشہ حبیب peer education کی صورت میں بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ ہم برگد کے دفتر میں گروپ ڈسکشن کے لیے آتی ہیں تو بہت سے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر لڑکیوں کو خراب کیا جاتا ہے

انسو سناک ہے مگر پچاس ہزار عراقی اور فلسطینی بچوں کے مرنے پر تو ایک لفظ انہوں نے نہیں کہا جاتا۔

برگد کا بیسٹ ویسٹرن اسلام آباد میں سیمینار



ڈاکٹر اسلم سید جن کا تعلق قائد اعظم یونیورسٹی سے ہے انہوں نے کہا ہماری نسل تو پاکستان کو نہ جمہوری اور نہ ترقی پسند اقدار سے سکی تم تو جوان اب اس مقصد کو پانے کے لیے کیا کرتے ہو۔ انہوں نے کہاٹی وی اور کمپیوٹر نے انسانوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔

ظفر اللہ خان کہا کہ سوشل سائنس بہت ضروری ہے مگر کمپیوٹر کی اہمیت سے انہیں نہیں کیا جاسکتا انسانوں کے پاس چوائس ہونی چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔

عابد ساقی جن کا تعلق لاہور ہائی کورٹ سے ہے انہوں نے کہا پاکستان کے بانی نے وزیر اعظم بننے کی بجائے گورنر جنرل بننا پسند کیا۔ انہوں نے کہا ہم سکولوں میں غلط تاریخ پڑھاتے ہیں۔

برگد نے اسلام آباد بیسٹ ویسٹرن ہوٹل میں ایک روزہ سیمینار کروایا جس میں ڈھائی سو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے شرکت کی ان کا تعلق قائد اعظم یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، فاطمہ جناح خواتین یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج لاہور اور اسلام آباد کے مختلف کالجوں سے تھا۔ مزید برآں اس میں مختلف سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں، قومی اور بین الاقوامی اداروں کے افراد نے شرکت کی۔

اس سیمینار میں برگد کی ڈائریکٹرز نے تین سو عورتوں کے ساتھ ہمارے معاشرے میں رائج اقدار اور ان کا ہماری زندگیوں پر اثرات کے موضوع پر کی گئی تحقیق کو پیش کیا۔

اکنامسٹ اور دانشور قیصر بنگالی نے ستودہ نیت سے خطاب کرتے ہوئے جمہوری اقدار کو تاریخی حوالوں سے بیان کیا اور پاکستان میں جمہوری حکومت ہوتی تو سرکار کو امریکہ کی خواہش پر افغانستان کے خلاف فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوتی انہوں نے جمہوریت اور جمہوری رویے پر تفصیلی بات کی اور کہا کہ پاکستانی فوج پاکستان میں جمہوریت کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہمارے عدالتوں میں انصاف ایک بگاڑ چیز ہے۔

مقررین میں ڈاکٹر اختر قریشی، گورنمنٹ کالج لاہور سے شعبہ نفسیات کے چیرمین تھے جنہوں نے تعلیمی اداروں میں تشدد کی وجوہات بیان کیں۔ انہوں نے امریکہ کے دوہرے معیار پر بات کی کہ جب اسامہ بن لادن روس کے خلاف جنگ کرتا تھا تو وہ تشدد نہیں تھا آج جب وہ امریکہ کے خلاف ہو گیا ہے تو اس کو دہشت زدہ قرار دے دیا گیا ہے۔

چھوٹی چھوٹی باتیں

جناب یونیورسٹی، نیوکیپس پاکستان کی خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے۔ نہر کے دونوں طرف گھنے درخت اور سرکیں، ان کے اطراف میں سرسبز و شاداب میدانوں میں بیٹھے یا چلتے پھرتے بڑی مستی آتی۔ سڑک کے ایک طرف مختلف ڈپارٹمنٹس اور دوسری طرف ہوٹلز، سڑک کے کنارے ایک گمنے کے رس کی ریڑھی، ایک دی بھلے والا، چھلی والا، فالوے والا، جن کے پاس بیچ پڑے ہیں گل لڑکیوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ سڑک پر جگہ جگہ سپیڈ بریکر جو آپ کو احساس دلاتے کہ آپ اپنی سلطنت میں پھر رہے ہو کسی آتی جاتی گاڑی کو راستہ دینے کی قطعی ضرورت نہیں۔ دور دور تک اپنا کیپس ہے نظر ڈراؤ تو چاروں طرف اپنی ہی سلطنت ہے کوئی باہر کی چیز نظر نہیں آتی سوائے ان گزرنے والی گاڑیوں کے جو بہت گراں گزرتی ہیں۔

اس خوبصورت کیپس میں میں پہلے دن طلحہ اور فصیح کے ساتھ آئی (طلحہ اور فصیح نیشنل کالج آف آرٹس میں پڑھتے تھے، دونوں میاں بیوی ہیں، طلحہ میری سب سے قریبی دوست ہے اور فصیح مجھے بہت عزیز ہے) ہم ہمیشہ اکٹھے رہتے تھے۔ میں کلاس پڑھنے کے لیے کلاس روم میں چلی گئی اور یہ دونوں باہر ایک بیچ پر بیٹھ گئے۔

اسی اثنا میں عبدالباسط چوہدری، (جن کا تعلق گوجرانوالہ سے تھا اور شعبہ فلسفہ کے پرانے طالب علم رہ چکے تھے اور طلحہ کے بڑے بھائی، خرم راٹھور کے قریبی دوست بھی ہیں) آئے۔ انھوں نے جب یوں طلحہ فصیح کو ایک بیچ پر بیٹھے دیکھا تو فوراً پر لا بریری میں لے گئے اور سمجھایا کہ بیٹیاں کبھی کیپس میں ایک بیچ پر بیٹھنے کی غلطی مت کرنا۔ اسی دن میری ملاقات عبدالباسط چوہدری سے ہوئی اور جانے انجانے میں میرا اور ان کا بہن بھائی کا رشتہ بن گیا اور کیپس میں ڈھائی سال وہ وقتاً فوقتاً مجھے سمجھاتے رہے کہ ظلم و تشدد کے اس بازار کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔

ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا میں نے اپنے گھر میں سیکھا تھا۔ میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جہاں پر لڑکیوں کو سکول نہیں بھیجا جاتا تھا۔ جس خاندان میں کسی لڑکی کا سیکھ گھر سے باہر نکلنے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ عورتیں گھر سے باہر یا تو برقع پہن کر یا بڑی سی چادر لپیٹ کر کسی مرد کے سامنے نکلتی تھیں۔ بچپن میں ہم ایک کہانی سنتے تھے کہ ہمارے خاندان میں کسی لڑکی نے ایک لڑکے کے ساتھ راہ و رسم بڑھایا تھا تو اس کو پلاننگ کر کے میرے بڑے تایا جان نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہ عزت کے نام پر قتل تھا جو بہت ضروری تھا اور اس لڑکی کے والدین نے عدالت میں میرے تایا کے حق میں بیان دے دیا تھا اور یوں بھی یہ خاندان کی عزت اور غیرت کا معاملہ تھا اور جج بھی ان معاملات میں رعایت کرتے ہیں لہذا تایا جان چند سال جیل میں رہ کر گھر آ گئے۔ میرے دادا جان نے پاکستان بننے سے پہلے دو سکھوں کو اس بنا پر قتل کروایا تھا کہ انھوں نے علاقے میں ظلم و ستم پھیلا رکھا تھا۔ یہ سکھ اپنے علاقے میں ذیل دار تھے۔ قسمت اچھی تھی کہ پاکستان بن گیا اور دادا جان بری ہو گئے۔ یہ دوسری کہانی تھی جو ہم اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے (سنائے کہ بچوں کو کوقاف اور پرستان کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں) باعزت عورت کا مقام گھر ہے۔ شریف گھرانوں کی لڑکیوں کا کوئی غیر مرد نام بھی نہیں جانتا۔ دادی اماں بتاتی کہ بیٹیاں جھڑی کھاتی ہیں اور بیٹے کھن کھاتے ہیں۔ ہمارے گھر عورتیں لمبی لینے آتیں تو بتایا جاتا کہ یہ کی کین گھروں سے ہیں اور ہم معزز گھرانے سے ہیں اس لیے ہمیں برادری سے باہر کسی اور گھرانے میں نہیں جانا چاہیے۔ یہاں تک کہ شادیوں پہ بلانے پر بھی ہماری عورتیں برادری سے باہر کی شادیوں پر نہ جاتیں۔

بچپن میں جب میرے سامنے تضاد باتیں آتیں تو میں ان کے بارے میں سوچتی مجھے دھندلا سادیا ہے اور چونکہ بعد میں اکثر اس موضوع پر بات ہوتی رہی لہذا یوں لگتا ہے کہ یہ میری یادداشت کا حصہ ہے یہ 1974 کی بات ہے ایک دفعہ ہمارے گھر بہت سے لوگ رہنے کے لیے آئے ہمارے گھر میں ایک گیلری ہوا کرتی تھی اس میں بہت سا اسلحہ تھا معلوم ہوا کہ ملک میں قادیانوں کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے ان کی جان و مال کو خطرہ ہے اور ہمارے گھر یہ مرزائی ہیں جنہوں نے پناہ لے رکھی ہے میرے ابو جان نے کھل کر ان کی حمایت کی اور راہوالی کے تمام مولوی حضرات اور بہت سارے لوگوں کی مخالفت مول لی اسی زمانے میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ میرے والد صاحب بھی قادیانی ہو گئے ہیں۔ میرے ابو جان کا موقف تھا کہ اسلام تمام مذاہب اور تمام کلتیوں کو جگہ دیتا ہے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کو قتل کرے یا اس کے مال کو نقصان پہنچائے۔ میرے ہی ابو جان نے اس منصوبے میں ساتھ دیا جب ہمارے خاندان کی ایک عورت کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا اور پھر انھوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کی جائز حمایت کے لیے ساری راہوالی کی مخالفت مول لی۔

سیاسی تعلیم کا آغاز اس وقت ہوا جب میں سات سال کی تھی میرے ابو جان ضلعی سیاست میں پوری طرح سرگرم ہوا کرتے تھے میں ان کی باتیں بڑی دلچسپی سے سنا کرتی تھی بھٹو صاحب میرے پسندیدہ سیاست دان تھے۔ ہمارے گھر میں ایک ضلعی سطح پر عورتوں کا کنونشن ہوا میں نے اسکی تیاریوں اور مشوروں میں بھرپور حصہ لیا کہ کھانے میں کیا ہوتا جیسے کس قسم کی عورتوں کو آتا ہے اس جلسے میں کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ میں کئی دن تک پر جوش طریقے سے ابو جان سے سوال پوچھتی رہی بالآخر جلسے والے دن ہمارے صحن میں عورتوں کا ہجوم تھا میاں اظہر حسن ڈار اور بہت سارے سیاست دانوں کی بیویوں، بہنوں اور ماؤں نے اس جلسے سے خطاب کیا جس کو میں بہت دلچسپی اور شوق سے سنا۔ اس جلسے کی مخالفت میرے بڑے بھائی نے کی کیونکہ وہ ان دنوں قومی اتحاد کو سپورٹ کرتا تھا اور ہمارے گھر میں ہینڈ پوائنٹ پارٹی کا پرچم لگا ہوتا تھا تو میرا بڑا بھائی نیکسٹی کی عمارت پر قومی اتحاد کا پرچم لگا دیتا تھا میرے والد صاحب نے کبھی اس کا براندہ نہ کیا بہت سے لوگ میرے بھائی کو جس کی عمر صرف نو سال تھی قومی اتحاد کے جلسوں میں لے جاتے اور

سٹیج پر بٹھا دیتے کہ پہنچا پارٹی کے خلاف بولو۔ ابوجان نے کبھی اس پر بھائی کو کچھ نہ کہا بلکہ ہمیشہ ہنس کر کہتے کہ میرا بیٹا میری مخالفت کر رہا ہے۔ میرے بھائی نے بہت کوشش کی کہ مجھے یہ باور کرائے کہ ہمارے ملک کے لیے بھٹو صاحب کی حکومت بہت نقصان دہ ہے اور غیر اسلامی ملک بنا دیں گے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو دلائل دے کر قائل کرنے کی کوشش کرتے۔ مکی اور بین القوامی سیاست اور حالات پر ہمارے گھر میں گرما گرم بحثیں ہوتیں۔ جن میں میں اگر حصہ نہ لیتی تو غور سے سنتی ضرور میں نو سال کی تھی جب ایک رات پتہ چلا کہ معمولی جھگڑے پر میرے وہی تایا جنہوں نے غیرت کے نام پر قتل کیا تھا خود قتل ہو گئے ہیں۔ میرے ذہن میں جو پہلی بات آئی وہ یہ تھی کہ یہ قدرت کا انصاف ہے۔ جب میں نے اس کا اظہار کیا تو مجھے خاصی ڈانٹ سننے کو ملی۔

اسی گھرانے میں میرے ابوجان ایک بالکل مختلف فرد ثابت ہوئے۔ جو اپنے کالج کے زمانے میں طالب علموں کے لیڈر رہے طالب علموں کے حقوق کے لیے عملی جدوجہد کی۔ اس زمانے کی سیاسی اور کیونسٹ پارٹیوں نے ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی مگر انہوں نے انکار کر دیا یونین لیڈر تھے پرنسپل کے ساتھ جٹ پر جھگڑا ہوا۔ تمام کالج نے ان کی راہنمائی میں ہڑتال کر دی۔ مطالبات مان لئے گئے مگر ایک اور کیس بنا کر ابوجان کو نہ صرف کالج سے نکال دیا گیا بلکہ اخبار میں یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا کہ اس طالب علم کو پاکستان کے کسی کالج میں داخلہ نہ دیا جائے۔ یوں ہمارے نظام تعلیم نے ایک طالب علم سے پڑھنے کا حق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔

ابوجان ہمیشہ حق کا ساتھ دینے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کو کہتے۔ جان جاتی ہے تو جائے مگر غلط بات پر سمجھوتہ نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ کہتے کہ ظالم برا نہیں مظلوم برا ہے جو ظلم برداشت کرتا ہے اور ظلم فروغ پاتا ہے۔ بہت نرم دل، جذباتی اور ترقی پسند اقدار کے حامی ہیں۔ ساری زندگی میں نے ان کے نیچے کے پاس قرآن پاک کا اردو ترجمہ دیکھا ہے وہ سونے سے پہلے قرآن ضرور پڑھتے اور میں بھی اردو قرآن پڑھنے کی ہدایت کرتے تاکہ قرآن کو سمجھا جاسکے۔

میری امی جان ایک سیدھی سادی کم گو گھریلو خاتون ہیں۔ جو جذبات کے اظہار کے معاملے میں بہت تجویس ہیں اور میرے والد صاحب کے بالکل الٹ ہیں۔ صرف ایک چیز دونوں میں مشترک ہے کہ دونوں ترقی پسند اقدار کے حامی ہیں۔

پھر امی گھرانے میں جو بڑا لڑکا پیدا ہوا وہ بالکل اپنے خاندان کے نظرات سوچ اور عادات کا مالک تھا۔ یعنی کہ میرے بڑے بھائی جو گھر میں آئی والی کتابوں سے لے کر سہیلوں تک ہر چیز کو اپنی مرضی اور پسند سے آنے دیتے۔ جن کے خیال میں لڑکیوں کو گھر کی چار دیواری سے باہر صرف بارہ پندرہ سال کی عمر میں نکلتا چاہیے جب ان کی شادی کا دن ہو۔ لڑکیوں کو صرف اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ وہ بھائی، شوہر یا بچوں کی خدمت اچھی کر سکیں اور اچھا کھانا پکا سکیں۔ چونکہ وہ گھر کے بڑے صاحب زادے تھے اس لیے گھر میں ان کا حکم چلتا تھا۔ صرف نوائے وقت گھر میں آسکتا ہے، صرف نسیم حجازی کو پڑھا جاسکتا ہے، ٹی وی دیکھنے کی اجازت نہیں، شریف لڑکیاں ڈانس کرنا تو دور کی بات ڈانس کے بارے میں سوچتی بھی نہیں، گھر میں گانے سینئر ہو کر آتے۔ ہم دو بہنوں تک ہر چیز چیک ہو کر آتی میری بڑی بہن ہمیشہ بھائی کی ہاں میں ہاں ملاتی اور کہتی کہ معزز گھرانوں میں لڑکیاں اسی طرح رہتی ہیں اور اسی میں ان کی عزت ہوتی ہے۔

بچپن کے خاتمے کے ساتھ ہی مجھے گننے کا کہ مجھ پر زندگی تنگ ہو رہی ہے اور لڑکی اور لڑکے کی زندگی بہت مختلف ہے مجھے بہت ساری باتوں پر سمجھوتہ کرنا ہے۔ جو باتیں شعوری اور لاشعوری طور پر میں نے سیکھی ہیں مجھے عملی طور پر مختلف ہونا چاہیے مگر مجھے یہ سب قبول نہ تھا۔ مجھے عزت کے نام پر اپنی ہر خواہش، شوق اور ارمان کا گلا گھونٹنا منظور نہ تھا۔ مجھے یوں لگتا کہ لڑکی ہونا میرا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میں رشک بھری نظروں سے لڑکوں کو دیکھتی کہ یہ جب چاہیں باہر جاسکتے ہیں یہ جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں ان کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اور بے بس کمزور، لاچار لڑکیاں صرف سنے دیکھ سکتیں، کسی راجے کے کسی شہزادے اور اب کسی بی بی آفر کے جو ایک دن آئے گا اور ان کو لے جائے گا۔ مجھے نفرت ہو گئی عورت ذات سے، مجھے یوں لگتا کہ عورتوں اور کیڑے مکوڑوں میں کوئی فرق نہیں، مجھے عورتیں زمین پر بیٹھی نظر آتیں، جو نہ لڑکڑ چل سکتی ہیں اور نہ مرضی سے بیٹھ سکتی ہیں حتیٰ کہ سیدھی لیٹ نہیں سکتیں، میری ایک ممانی اپنی شادی کے چند دن بعد برآمدے میں پڑے ایک پٹنگ پر سیدھی لیٹ گئیں اس پر بہت لے دے ہوئی کہ دلہن کو بیٹھے اٹھنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ میں جب دیکھتی کہ مردوں کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے تو میرے دل سے آہ نکلتی کہ کاش میں لڑکا ہوتی، اور اس سے زیادہ مجھے اس وقت تکلیف ہوتی جب عورتیں کہتیں کہ ہماری بہتری اور عزت اسی بات میں ہے کہ ہم مردوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کے لیے مردوں نے بہت سی من گھڑت کہانیاں گھڑ رکھیں ہیں اور مذہب کا سہارہ لے رکھا ہے جو وہ عورتوں کو سنا سنا کر قائل کرتے ہیں کبھی کسی مرد نے نہیں بتایا کہ پیغمبر اپنی بیویوں کے کتنے ناز دیکھتے تھے ان کی بات مانتے تھے اور حضرت خدیجہ نے پیغمبر کو خود شادی کا پیغام بھیجا تھا۔

پہلی بغاوت میں نے ساتویں جماعت میں کی جب میرے سکول سے ٹرپ جا رہا تھا اور جو سز جماعتوں سے کلاس ہائیکر جاسکتی تھی میں نے فوراً نام لکھوا دیا مگر میں متوقع ہنگامہ ہوا میں نے بھی سکول چھوڑنے کی دھمکی دے دی، میں نے دلائل دیئے کہ ابوجان آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنی زبان کی عزت کرو میں اپنا نام لکھوا چکی ہوں لہذا میرا جانا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائی کا موڈ سخت خراب ہوا مگر میں نے پہلی بار گھر سے باہر اپنے گھر والوں کے بغیر وقت گزارا جو بہت دلچسپ تجربہ رہا۔

انہوں نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں وہ امیر لوگ ہیں اچھا ہے ان کو نقصان ہوا ہے۔

کاغذ سازی پر ٹریڈ پروگرام
گوجرانوالہ کے مختلف گزٹو کالجز کی پندرہ لڑکیوں کے ساتھ کاغذ سازی پر سرمد رضا
نائیک نے ایک تربیتی پروگرام کیا۔ ان کو دستی کاغذ کی اہمیت، ضرورت اور افادیت پر
ایک تعارفی لیکچر دیا۔ ان لڑکیوں نے مستقبل میں برگد کے کاغذ سازی پروگرام کے
ساتھ کام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔

سٹڈی سرکل کا آغاز

برگد نے راہوالی میں طالب علموں لڑکیوں کے لیے سٹڈی سرکل کا آغاز کیا ہے یہ گروہ
ہر ہفتے میں ہفتے کے روز شام چار بجے سے چھ بجے تک برگد کے دفتر میں ملتا ہے اور منتخب
موضوع پر گفتگو کرتا ہے۔ اس گروپ میں بیس لڑکیاں ہیں جن کا تعلق مختلف کالجوں
سے ہے ایک سہ ماہی میں بارہ گروپ ڈسکشن منعقد کی گئی ہیں۔

راہوالی عورت فورم

برگد نے ایک راہوالی عورت فورم کا آغاز کیا ہے۔ اس گروہ میں آٹھارہ عورتیں مستقل
رکن ہیں ان کی ملاقات مہینے میں دو بار ہوتی ہے۔ اس سہ ماہی میں چھ ملاقاتیں ہو چکی
ہیں عورتیں ان ملاقاتوں میں اپنے مسائل کو بیان کرتی ہیں اور مل جل کر ان کو حل کرنے
کی کوشش کرتی ہیں۔

امن ریلی میں شرکت

برگد نے سترہ اکتوبر کو لاہور میں سیپ پاکستان کی طرف سے منعقد کی گئی ریلی میں
راہوالی کے ستر افراد کے ہمراہ شرکت کی۔



انسان فاؤنڈیشن کی منعقد کردہ چار روزہ ورکشاپ میں شرکت

اگست میں انسان فاؤنڈیشن کی کمپنی بلڈنگ پر منعقد ورکشاپ میں شمولیت اختیار
کی۔ اس ورکشاپ میں پورے پنجاب سے منتخب غیر سرکاری تنظیموں نے شرکت کی۔ یہ
اس سال میں کمپنی بلڈنگ پر آخری ورکشاپ تھی۔

امریکن کونسلٹیٹ میں دو روزہ ٹریڈ پروگرام میں شمولیت

امریکن کونسلٹیٹ کے منعقد کردہ دو روزہ این جی اوٹینجمنٹ پروگرام میں برگد کے دو
ممبران نے شرکت کی۔

سی ڈبلیو ایس کی عورتیں اور ترقی پر پانچ روزہ ورکشاپ میں برگد کی شرکت

30 ستمبر سے 15 اکتوبر تک سی ڈبلیو ایس نے عورت اور ترقی کے موضوع پر ورکشاپ
کروائی جس کی سہولت کار کشور سلطانہ، عمارہ کوکب، اور صوفیہ نورین تھیں۔ جس میں
عورت کے مسائل کو تاریخی تناظر میں پیش کیا نہیڈ گلوبلائزیشن کی وجہ سے پیدا ہونے
والے مسائل جن میں فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہے اس کے عورتوں پر اثرات واضح
کئے۔

قائد اعظم یونیورسٹی میں امن فورم کا آغاز

قائد اعظم یونیورسٹی میں اعجاز احمد کی نگرانی میں امن یوتھ فورم کی بنیاد رکھی گئی ہے جس کو
یونیورسٹی کے اکثریت طالب علموں نے نہ صرف سراہا ہے بلکہ اس کے ممبر بنے ہیں۔

برگد کے دفتر میں بھٹہ مزدور بچوں کے لیے پتلی تماشہ

بھٹہ مزدور بچوں کے لیے برگد کے دفتر میں پتلی تماشہ کیا گیا
جس کو بچپن بچوں نے دیکھا اور تقریباً تیس عورتیں بھی آئیں۔
یہ سب بھٹے پر کام کرنے والی عورتیں اور بچے تھے۔ جو بہت خوش
ہوئے اور جب ان سے سوال جواب کئے گئے تو انہوں نے بھر
پور حصہ لیا۔ موجودہ صورت حال کے حوالے سے بات کرتے
ہوئے اکثریت نے جہاد کرنے کا عزم کیا اور امریکہ کے خلاف
اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ جب ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو

ذیشان

قائد اعظم یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنسز کے طالب علم ہیں۔ برگد کے سرگرم کارکن اور امن فورم کے ممبر ہیں۔ انھوں نے حال ہی میں اسلام آباد میں ہونے والے سیمینار کی تیاریوں میں بھر حصہ لیا۔

شاہد گل

پنجاب یونیورسٹی شعبہ فلسفہ کے لیکچرار ہیں، برگد کے پوتھ فورمز کے ایڈوائزر ہیں اور برگد کو ہمیشہ ان کی اخلاقی، سماجی مدد ملتی رہی ہے۔



مسعود میتلہ

قائد اعظم یونیورسٹی میں ایم۔ بی۔ اے کے ہونہار طالب علم ہیں برگد کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ پیش پیش رہتی ہیں۔



صہیب انور ہاشمی

ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ برگد کے بانی ممبران میں سے ہیں بلوچستان یونیورسٹی میں طالب علموں کے ساتھ ڈسکشن کرنا، فورم بنانا ان کی ذمہ داریاں ہیں۔



ڈاکٹر راشد متین

یونیورسٹی گرانٹ کمیشن میں ڈائریکٹر پبلک ریلیشن برگد کے رکن ہیں۔ جو ہمیشہ اسلام آباد میں مختلف کالجوں میں طالب علموں کے ساتھ برگد فورم کے لیے کام کرتے ہیں۔ نیز ہر قسم کی خدمات کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔

عمرو امیں

گریڈ لیز بینک میں کریڈٹ کارڈ کو لیکشن انچارج ہیں اس کے علاوہ سولیس (آئی ٹی) پر ڈکشن، آئی ٹی ایجوکیشن اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ برگد کے شعبہ پلاننگ میں کام کرتے ہیں۔



ثروت حبیب

ان سنے پتروں کی بوتلیک چلاتی ہیں۔ برگد کی سرگرم رکن ہیں۔ راہوالی میں عورتوں کے گروپ بنانے میں ان کا اہم کردار ہے۔



بشیر احمد

قائد اعظم یونیورسٹی میں معاشیات کے طالب علم ہیں۔ طالب علم رہنما ہیں۔ یونیورسٹی میں امن فورم کے قیام میں ان کی خدمات



نمایاں ہیں۔

جنید سرفراز

قائد اعظم یونیورسٹی میں ایم۔ بی۔ اے کے طالب علم ہیں اور برگد کے ممبر ہیں اور یونیورسٹی میں برگد کے لیے ان کی خدمات نمایاں ہیں۔



جناب ایڈیٹر صاحب،
عرض ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آپ کا میگزین ملا پڑھ کر خوشی ہوئی کہ آپ نے طالب علموں کے مسائل خصوصاً جو درس گاہوں میں پیش آئے ہیں ان کا تفصیل سے ذکر کیا۔ آپ جو سیمینار منعقد کروا رہے ہیں اس کے لیے میں چند تجاویز ارسال کر رہا ہوں۔

☆ نوجوانوں کی صحیح رہنمائی
☆ مالی دشواریاں
☆ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا کردار
☆ سیاسی جماعتوں کا کردار

محمد جاوید، مغلیہ پور، لاہور

محترم محمد جاوید
آپ کا خط ملا شکریہ۔

آپ کی تجاویز نوٹ کر لی گئی ہیں اور ہم ان کو اپنے سٹڈی سرکل اور سیمینار میں تقیناً زیر بحث لائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہمیں اپنی آراء بھیجتے رہیں گے۔

ایڈیٹر

ڈیر ایڈیٹر

میں نے آپ کے میگزین کا بغور مطالعہ کیا میں آپ کا موضوع تعلیمی اداروں میں تشدد کا رجحان قابل تعریف ہے۔ برگد کی جانب سے متعدد انٹرویوز اور کالم نے نہایت عمدگی سے تعلیمی اداروں میں موجودہ دور میں پیدا ہونے والے زہر کو ابھارا ہے۔ آپ کی جانب سے جمہوری اور ترقی پسند اقدار کی ترویج کا ارادہ مستحکم دکھائی دیتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مختلف معاشروں کے تعلیمی اداروں میں نوجوان نسل میں ادب اور روشن مستقبل سے منسلک تحریک چلائی جاتی ہے مگر افسوس

کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ۱۹۸۰ کے فوجی اقتدار نے نہایت منظم طریقے سے تعلیمی اداروں کی آزادی اور سیاست کو کچلا اور انہیں خود مختار اساتذہ اور آزاد خیال طالب علموں کے لیے محض قبرستان بنا دیا۔ آپ کے میگزین کے مواد نے مجھے میرے بیٹے ہوئے تعلیمی دنوں کی یاد دلائی، خاص طور سے قائد اعظم یونیورسٹی میں علامہ مٹر کی کہانی حالات بہت برے تھے مگر اتنے نہیں میں ۱۹۸۸ میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی سٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر کی حیثیت سے اس قابل تھا کہ تمام فرقہ وارانہ کونسلوں کے ہیڈز سے کامیاب بات چیت کر سکتا کہ وہ اپنی آرگنائزیشن کو ختم کر کے پی ایس ایف میں گھل مل جائیں اور اس کامیاب منصوبے پر دو سال تک کام ہوا۔

ایک اہم پہلو جس کا ذکر آپ کے میگزین میں نہیں ملتا کہ ہمارے طالب علموں میں باہم گروہی گفتگو، بحث مباحثے کا رواج ختم ہو چکا ہے مزید براں طالب علموں میں دلچسپ تحریری مواد کی بھی کمی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ پہلو آپ کے اگلے شمارے کا بنیادی مرکز بنے۔ اس طرح آپ تعلیمی اداروں میں سروے منعقد کروا کر ان سے ان کے نظریات معلوم کر سکتے ہیں۔

آپ کے روشن مستقبل کا خواہشمند

ظفر اللہ خان، فیڈرک نومان فاؤنڈیشن، اسلام آباد

ڈیر ظفر اللہ خان

ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے نہ صرف ہمارے پہلے شمارے کو بغور پڑھا ہے بلکہ ہمیں بہت سی قیمتی آراء سے نوازا ہے۔ طالب علموں میں باہم گروہی گفتگو کو دوبارہ سے شروع کرنے کی اشد ضرورت ہے ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں اور اس منصوبے پر کام شروع کر چکے ہیں۔ امید رکھتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہمیں اپنی آراء بھیجتے رہیں گے۔

ایڈیٹر